بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

حوالہ جات بائیبل

BIBLE & QURAN

فہرست مضامین

ابن آدم

متی:-16:27 -12:40 -12:32- 12:19 -10:23-9:6 -8:20- 1:1, 20:28-20:18

19:28-18:11-17:22-17:9, 6:28, 24:30&31-20:30,31

مرقس:14:21-13:26-10:48-9:31-9:12-9:9-8:38-3:28-2:10, .14:62

لوقا:18:3-17:24-17:24-12:10-12:8-11:30-10:58-1:32, 22:48-21:27

یوحنا:13:31-12:24-6:62

اعمال:7:57 ،رومیوں1:3,4

"خدا کا بیٹا" ایک اصطلاح

فرشتوں کو=ایوب 1:6 ،پیدائش 6:2، ایوب 38:7

نیک اور اچھے لوگوں کے لیے=متی14:33-3:17-5:9-5:45

دیگر افراد کے لیے

اسرائیل پلوٹھا=خروج4:22، سلیمان=زبور89:26,27،داؤد=تواریخ

داؤد=زبور2:7 , قاضی مفتی=زبور82:6, یتیم=زبور68:5

بدکار یسعیاہ30:1سب اسرائیل=رومیوں9:4,استثناء14:1

اسرائیل=ہوسیع11:1،بنی اسرائیل=یرمیاہ31:9،حزقیل23:37

افرائیم پلوٹھا=یرمیاہ31:20،31:9، سلیمان،یوحنا1:12

خدا کے لیے لفظ باپ

متی29:18،15:26یوحنا10:36،10:34یوحنا6:6, 6:9-13, 6:14, 7:11

لوقا12:32،6:36۔افسیون4:6۔ تھسلیکون2:16

محاورۃ لفظ بیٹا

باپ ابلیس سے ہو=یوحنا8:44

ہلاکت کا فرزند=یوحنا11:12

اچھا بیج بادشاہی کے فرزند اور کڑوے دانے شریر کے فرزند متی13:38

گناہ گار ابلیس سے یوحنا3:10،3:8—خدا کے فرزند نیک=یوحنا3:10،3:8

ابلیس کے فرزند2 کرنتھیوں6:18

شریر ابلیس کے فرزند=اعمال13:10

نور پر ایمان لانے والے نور کے فرزند=یوحنا12:36

ہلاکت کا فرزند=یوحنا17:12

لعنت کے فرزند=2۔پطرس12:14

نغمہ کی بیٹیاں=واعظ12:4

قیامت کے فرزند=لوقا21:36

پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے۔ مردوں میں اٹھنے کی وجہ سے خدا کا بیٹا ٹھہرا۔رومیوں1:4،1:3

جتنے خدا کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔رومیوں8:14

دوسروں کو خدا کہا۔یوحنا10:36،10:34

تم ایمان کے وسیلہ سے خدا کے فرزند ہو۔گلبتوں3:25

بیٹوں کو دور سے اور میری بیٹیوں کو زمین کی انتہاء سے لاؤ یعنی ہر وہ جو میرے نام سے کہلاتا ہے۔یسعیاہ43:6

وہ بنی اسرائیل زندہ خدا کے فرزند کہلادینگے۔ہوسیع1:10

میرے بیٹے کا عصا ہر لکڑی کو حقیر جانتا ہے۔حزقیل21:15

الوہیت مسیح

ایک خدا

=استثناء:6:4یسعیاہ37:20،رومیوں3:4یسعیاہ43:11یسعیاہ

45:23،45:21،45:14،استثناء4:39،4:35،یودا1:25

یوحنا:5:44،۔۔۔1:17،1:16،رومیوں16:27،یوحنا5:44کرنتھیوں6:5،

1-TIM2:5کرنتھیوں8:4،افسیوں4:6کرنتھیوں9:6،8:6،یوحنا

17:3،استثناء4:35،4:39،زبور73:25،خروج22:20،6-TIM6:15،متی23:9

بے مثل خدا=40:11یسعیاہ44:24یسعیاہ45:6،45:5یسعیاہ44:24

لاشریک یسعیاہ40:18سیموئیل2:2

کوئی دوسری چٹان نہیں سیموئیل22:32،تواریخ17:20،زبور=8:87سیموئیل2:2،

چٹان نہیں سیموئیل22:32

1۔سلاطین8:23،زکریا14:9،واحد خداافسیوں4:6

واحد خدایہودا1:4

دوسروں کو بھی خدا کہا گیا ہے،یوحنا10:36،10:34

اس روز ایک ہی خدا ہو گا اور اسکا نام واحد ہو گا۔زکریا13:9

تثلیث

مسیح کا دعا کرنا= متی 26:41،26:40۔ لوقا 9:28،5:16،11:2،11:1، متی 26:39،21:22، لوقا 5:16

کھانا کھانا= متی 17:33، متی 4:2،4:1، لوقا 24:43، متی 21:19

بے علمی= مرقس 13:32، مرقس 5:30

مخلوق= رومیوں 1:4 کلیسون 1:15

سر دھرنے کی جگہ نہیں= متی 8:20، سونا= لوقا 8:24،8:23، مجسم ہونا= یوحنا 1:13

ابلیس سے آزمایا جانا= متی 4:2،4:1، زخمی ہونا= لوقا 24:30،24:29

خدا کی صفات

قادر= استثناء 10:17، لوقا 18:28

غیب کا جاننے والا= استثناء 29:29، علیم سیموئیل 2:3، تواریخ 16:9

زندہ خدا ابد الاباد۔ استثناء 32:40، زبور 19:46 یرمیاہ 4:2

خالق= اعمال 4:24 یسعیاہ 44:24، اسکا کوئی شریک نہیں

بادشاہ مالک= یشوع 2:11

لا محدود سلاطین 8:27۔ بے مثل سلاطین 8:23

خدا آزمایا نہیں جاسکتا، یعقوب 1:13 لا تبدیل= ملاکی 3:6

دعاؤں کا قبول کرنے والا یرمیاہ 29:12

متی قیوم دانی ایل 12:7،4:34

سوتا نہیں= زبور 121:4

خدا روح ہے اسکی مخصوص شکل نہیں= استثناء 4:19،4:15

خدا غیور ہے= استثناء=

عیسائیوں کے دلائل

(س) میں اور باپ ایک ہیں= یوحنا 14:11،14:8،10:30، یوحنا 14:20

(ج) حواری۔ خدا اور مسیح بھی ایک ہیں= یوحنا 17:23،17:21

دیگر انبیاء کے معجزات

مردوں کا زندہ کرنا حقیقی مردے زندہ نہیں ہو سکتے یسعیاہ 26:1،2 سیموئیل 14:14

الیشع کا مردہ زندہ کرنا=2۔ سلاطین 4:37،4:32

ایلیا کا مردہ زندہ کرنا=2۔ سلاطین 17:23،17:17

تثلیث

برابر نہیں=بیٹا بعض قدرت نہیں رکھتا۔ وقس 10:40

یسوع خدا سے چھوٹا=یوحنا 13:16، یوحنا 8:42،8:28

باپ بڑا ہے=یوحنا 14:28

باپ حکم دیتا ہے=یوحنا 14:31، بیٹا وحی نہیں کر سکتا۔ یوحنا 6:8

بیٹا خدا کے تابع ہے 1 کرنتھیوں 15:28،15:24

یسوع اور خدا ایک نہیں=یوحنا 8:17 خدا کے حضور یسوع کی حاضری۔ مکاشفہ 9:24

یسوع خادم ہے۔ اعمال 4:27

خدا یسوع سے الگ ہو گیا۔ متی 27:46

مگر کامل آدمی کو خدا نہیں چھوڑتا=ایوب 8:20

تاکستان کی مثال ہیں الگ الگ ذکر۔ لوقا 20:9-16

خدا نے مسیح کو زندہ۔ اعمال 2:24

Act20:28 لفظ Son کا اضافہ کر دیا ہے

Hab 1:12 We کی بجائے You کر دیا ہے

موازنہ کے لیے دیکھیں

The Kingdom interlinear

Translation oft he Greek Scriptures by The N.W.B Translation Comittee

Ed 1985 WATCHTOWER BIBEL SOCIETY of N.Y.INC USA

The Kingdom INTER-TRANS oft he GREEK SCRIP 1985Edd

NWTبائیبل میں تحریف

(1)متی9:8 Must be dead مگر اصل میں ہےright now deceased
تضاد ختم کرنے کے لیے

(2)مرقس2:26داؤد کے واقعہ میں تضاد ختم کرنے کے لیے

(3)مرقسThree days Later8:31اصل میںafter Three daysہے
موازنہ متی16:21،لوقا9:22

(4)یوحنا I have been8:58،8:59اصل ہے I amاختلاف الوہیت مسیح کی وجہ سے

(5)یوحنا10:8in place of meمگر اصل ہےbefore meاعتراض ختم کرنے کے لئے

(6)یوحنا12:32 لفظSortsکا اضافہ کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کے بغیر ان کا یہ عقیدہ غلط ثابت ہوتا ہے کہ سب آسمان پر جائیں گے (ہم)

(7)اعمال11:26،divine providenceکا اضافہ کر دیا گیا ہے اصل معنی ہیںcalled

(8)1۔یوحنا4:1،4:2Spirt کی بجائےInspired Expressionکر دیا ہے اس سے بھی عقیدہ ثابت کرنا ہے۔

(9)عبرانیوں12:23Spiritکی بجائےSpirtual lives کر دیا ہے

(10)Sendingکی بجائے Lets goکر دیا ہے2-Thes2:11

Gen9:4یہاںWhich isلفظ بڑھا دیے گئے ہیں

Det2:12 یہاں فعل ماضی کو مستقبل میں تبدیل کر دیا ہے کیونکہ ماضی سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اسرائیل کنعان پر قابل ہو چکے ہیں مگر موسٰی تو کنعان گئے ہی نہیں اسلئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب بعد میں لکھی گئی ہے۔

Jos16:1-2 یہاں Blonging to Luzکا اضافہ کر دیا ہے ے کیونکہ پیدائش19:28سے پتہ چلتا ہے کہ بیعت ایل کا پرانا نام نور تھا اسلئے یہاں غلط لکھا گیا ہے کہ بیعت ایل سے نکل کر نور کو گئی اس غلطی کو درست کرنے کے لیے یہ اضافہ کرنا پڑا۔

Mark9:24-25یہاںHelp me to the lack of Faith کی بجائے
Help me where I need faithکر دیا ہے کیونکہ پہلے وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرا اعتقاد ہے تو پھر اعتقاد کی کمی میں مدد کی کیا ضرورت ہے۔

Amos 5:27لفظ آگے پیچھے کر کے مطلب بگاڑا گیا ہے

Jehovah whose name is the God of Hostsکی بجائے

Whose name is Jehovah the God of armies(Hosts)?کردیاہے

عیسائیوں کااعتراف تحریف

"وہ مقامات جہاں عیسائیوں کوخوداعتراف ہے کہ بائبل میں اضافہ یاکمی ہوئی ہے،،

(1)مرقس16:12،16:8بعدمیں شامل کی گئی ہیں۔اگرنہ مانیں توپھرایمان کی یہ نشانیاں دکھلائیں۔

(2)یوحنا5:4،5:3یعنی اس کاکچھ حصہ اورآیت4پوری کی پوری

(3)یوحنا7:53سے8:11تک بعدمیں شامل کی گئی ہیں۔

(4)یوحنا1۔5:7تثلیث کے عقیدہ کی وجہ سے شامل کی گئی ہیں۔

(5)1۔ TIM 3:16 بعض میں نہیں ہے۔

بعض الفاظ کم یازیادہ جوآیات غائب ہیں یاکم یازیادہ ہیں۔

متی17:21،12:47،12:46،18:11،19:9،23:14،27:50،26:74،6:9،6:13۔آخری حصہ

یوحنا5:4 متی16:3،20:16،24:36

اعمال8:37،28:29،15:34،(27:37مختلف مسودات میں تعدادمختلف ہے)

مرقس=7:16،9:44،9:46،20،11:26-15:28،16:9،9:29۔

لوقا=22:43-56،9:54،22:44،23:17،24:40،24:52،24:36

مرقس1:1بعض میں Son of God نہیں ہے،9:49،10:24،14:51،14:68۔

لوقا=4:8،6:1،17:36،22:19،22:20،22:68،23:34،23:38،24:6،24:12،24:36،24:40،

24:51،24:52یہ تمام آیات Codex of Beza میں نہیں پائی جاتی ان میں 24:52میں آسمان پرجانے کاذکر ہےCodex Sinaiticusمیں بھی نہیں پائی جاتی

Luke 6:5 (Codex D)بعدمیں شامل کیاگیاہے۔

John 6:52-59

Is a redactor additions made to an earlier work.

Codex Alexandrinus

”This Codex contaon 1 and 2 clement“

یہوواہ۔خدا کا لفظ کن کتابوں میں نہیں آیا

“لفظ خدا”

کتاب ایستر میں نہیں آیا

“لفظ یہووا”

ایستر۔واعظ،غزلالفرلات،فلپیون ططق 1،2،3یوحنامیں نہیں آیا۔

میں شامل کرلیاہے مگر مندرجہ بالاکتب N.W.T(نوٹ)ویسے توتمام نیاعہد نامہ میں نہیں آیااور یہوواوٹنس والوں میں

میں نہیں ہے N.W.Tمیں

Cannon & Codexکی تاریخ میں اختلافات

Melito(1) (A.D-180:170)کے مطابق

LAMENTATON of Sarids

اس میں نوحہ کی کتب شامل نہیں بحوالہ(Ch.HIST- 1V26،12-13)

EUSEBIUS

ORIGEN(2)اورTeromeمطابق کےLetter of Termiahبھی شامل ہے۔

Codex Vaticanus(3)

Wisdom of Sirachاور البتہEster اضافہ کے ساتھ Susana, Letter of Termiah

Baruch, Tobit Danial with Additions oft he prayer of Azariah and the

song of three Bel and Dragonبھی موجود نہیں۔

Codex Sinaiticus(4)

اس میںMACCABEES 1سے4(2)زبورISI TOBIT(3) JODITH(4) Jesus (5)

Sirachبھی موجودہیں۔

Codex Alexandrinu

زائد کتب=Letter of Jermiah (2) Susana (3) Easther کے زائد ابواب، (4)Jesus Maccabi

1-4(5) زبور 151 شامل ہے (6)Wisdom of Sirach

Tobit, Wisdom of Jesus.SL XX Maccabi 1,2, Easther 10:3-16 Baruch, Letter of Jermiah

میں 7 کتب زائد ہیں۔

VULGATE

زاید کتب=(1)Tobith (2)Judith

(3) Easther with AD 10-4 to 16:24 (4)Wisdom ofSirach

(5)Baruch (6)Letter of Jermiah (7)Add Danial (8)Susana

(9)Bell&Dragon (10)Miccabi 1-2 (11)Esdras-3

CANON of NT

A.D 367 میں ATHANASIUS نے سب سے پہلے NT کی 27 کتب کا ذکر کیا ہے۔

MURATORIAN FRAGMENT WISDOM

متی کی انجیل کا شروع میں نہیں ہے پولوس کے خطوط میں سے عبرانیوں کا خط شامل نہیں ہے۔ یوحنا کا تیسرا خط یعقوب کا خط اور پطرس کے خطوط کے علاوہ یوحنا کا۔۔ شامل نہیں ہے مگر Wisdom کی کتاب شامل ہے۔

Writings of Origen

مندرجہ ذیل کتب کے متعلق لکھا ہے کہ یقینی طور پر الہامی نہیں ہیں۔

(1)یعقوب کا خط (2)2-پطرس (3)2-یوحنا (4)3-یوحنا (5)یہوداکا خط (6)۔۔کا خط

(7)Shepherd of Hemas

مگر یعقوب 2:17 اور یودا 6 کت متعلق بھی شک ظاہر کیا ہے۔

List of Eusebius

مشکوک کتب=(1)Jude (2)یعقوب (3)2-پطرس Eusebius نے لکھا ہے کہ

2-پطرس Canonical میں نہیں ہے۔2اور3=یوحنا

Spurious Book

(1)Act of Paul(2) Shepherd(3) Apocalypse of Peter

(4) Letter of Barnahas(5) Teaching of Apostes

Revilation(It is seem proper)Gospel According to Hebrems

Codex Sinaticus Contain

(1)Letter of Shepherd(2) Letter of Barnabas

Codex Alexandrinus

First and second Letter of element

Roman Catholies Cannon of old Testament

Contains following books in addition.

(1)Tobit(2)Judith(3)Easter with addition of Chapter 11to

17(4)Makkaboy 1,2(5)Jesus Siraeh Wisdom(7)Brief des Jermias(Baruch)

Codex Beza(D)

ٹیکسٹ میں اختلاف

لوقااور اعمال کا مستودادوسرے مستودات سے مختلف ہے۔اعمال کی کتاب میں 1:10 حصہ زائد ہے۔1562ء میں دستیاب ہوا(بحوالہ النساٹیکلوپیڈیا برٹینکا)۔

O.T کے مختلف Text میں اہم اختلافات

LXX	M.T

(1)	Ar pach shad lived a hunderd and thirty five years and became Father to Cainan....after... Ar pach shad lived four hunderd thirty years... Abd cainan lived a hunderd and thirty years..and became Father to shelah..and after Cainan lived 330 years and also(LU3.36) (GEN 11:12-13)	Ar pach shad lived Thirty five years.Then he became Father to Shelah after Ar pach Shad live four hunderd and three years. (GEN 11:12-13)
(2)	Adds Saying From my Father (GEN 19:37)	Omits
(3)	And raising his voice The young child wept (GEN 16:21)	She..began to raise her voice and Weep (GEN 16:21)
(4)	نہیں ہے(GEN 36:16).	Seik Korah(GEN 36:16)
(5)	Add=and he said to me I am going to Cohabit with you.(GEN 39:17)	

مختلف Text میں کمی یا زیادتی اور فرق

	LXX	MT
(6)	After Ephraim adds butt there were sons born to Manasseh, whom his Syrian concubins born to him normily Machir Became Father to Galad.But the son of Ephraim Manasseh's brother,were Sutalaam and Taam.And the sons of Sutalam were Edem.	Omits (GEN 46:20)
		LXX 1-تواریخ 25:3 میں بسعیا اور حسبتیا کے درمیان سمعی کا نام زاید ہے MT. میں ہی نام نہیں ہے مگر- 1 تواریخ 25:17 میں موجود ہے۔
(7)	QM who come into Egypt were Seventy five.(GEN46:27)	Who come into Egypt were seventy.(GEN46:27)

(8)	And Israel worshiped over the Top of staff.(GEN47:31)	At that Israel prostrated himself over the head of the Couch.(GEN47:31)
(9)	EXD 1:5 Seventy five Sauls	EXD 1:5 Seventy Sauls
(10)	SAM and……. Sons of Israel and their Fathers.(EXD12:40) LXX Add: and their Fathers dewelt in the land of Egypt and in the land of Canon Four hunderd and thirty years long.(Comp GA 3:17)	And the dewilling oft he sons of Israel who dewelt in Egypt was four hunderd and thirty years.(EXD12:40) Sam.LXX and Josephs shows that the 430 years are counted from the time Abrahim entered the land of Canon until the Time oft he Israelies went out of Egypt.
(11)	EX32:28 Txenty Three	EX32:28 Fell…..Three Thousend men.
(12)	Num 3:28	NUM3:28

	Eight Thousend Three hunderd.	Eight Thousand Six hunderd
	Which added tot he sums in Vss 22+34 totals 22,000 as given in vs 39.	
(13)	Num 4:3	NUM 4:3
	From Twenty five	From thorty years old
(14)	LXXESAM NUM 4:14	NUM4:14
	Add: And they will take a purple clothe cover the basin and its stand and put upon poles.	Omits
(15)	NUM 10:6	NUM 10:6
	Add: When you will blow the third signal,then the Camps of those Camping tot he West will	

	pull away.When you will blow a fourth signal then the Camps of those Camping to North will pull away.	
(16)	Alexendrine Text NUM16:35 Ends Chapter 16 here	NUM 16:35-50 Continude
(17)	NUM 25:9 Died....Twenty-Three Thousend(Comp1-cor10:8)	NUM 25:9 Died... Twenty Four thousend
(18)	SP GEN 11:32 And...One hunderd Fourty Five	GEN11:32 And the dogs of Terah came tob e two hunderd and five
(19)	GEN 4:8 And Sam Add. Let us go over into the field vg Let us go out door.	GEN 4:8 Omits

(20)	EX 2:22	EX2:22
	Add one more son Ader………	She born a son…. Gershom….
(21)	DET 33:2	DET33:2
	Vg-And with him Thousends of holy ones,in his wright a fiery law.	And with him were…my…At his reight hand war.. belonging tot hem.(Holy=Kadesh)
(22)	Det32:43	DET 32:43
	Beglade o haven, together with him, and let all the angels of God worship him,B Glade, YouNations,with his people and let all the sons of God strenthen themselves in him(Comp Heb 1:6)	Beglade,You nations with his people.

(23)	Judg 14:15 Forth Day	Judg14:15 Seventh Day
(24)	Judg 18:30 LXX,UG Mansseh حضرت موسیٰؑ کی عزت کی وجہ سے منسی میں بدل دیا ہے۔	Judg 18:30 The son of Gershom Moses son.
(25)	1-Sam1:24A 3 year old Balls	1-Sam1:24MvG 3 Balls
(26)	1-Sam4:1 And it occured in those days that the Philistines began gathering together against israel for battle.	1-Sam4:1 Omits open space
(27)	1-Sam5:9 Add:And the people of Gath. Took Counsel together and make themselves seets of skins.	1-Sam5:9
(28)	1-Sam6:1 Add and their land broke out with me.	1-Sam6:1 Omits

(29)	Judg21:22	Judg21:22
	You	Us
	Seventy men among them and Fifty Thousend of men	Seventy men-Fifty Thousend men
	SY=Five Thousend and and Seventy men.	
	Josekhus J.A6 1-4only Seventy and Omits 50,000	
	vgELXXI-Sam-10:1	1-Sam 10:1
	Has Jehovah anointed you as a leader over his people,over israel,and you will rule over Jehovah's people and you will save them out of hand of their enemies round about and this will be the sign to you that Jehovah…..	Omits
	1-Sam11:1	1 Sam11:1

Add=and it cause about approximately a month later in… Chapter2.	Omits
1-Sam14:21 And the slaves	1-Sam14:21
Who were Formaley with Philistines.	And the Mebrews
1-Sam14:23	1-Sam14:23
Add:And all the People with Saul were about Ten Thousend men and the Battel was spreed about to every City in the mountainous region of Ephraim.	And Battle uself passed over to Bethoven.
1-Sam14:41	1-Sam14:41
Add:Why it is that you didn't answer your servent Today?If in me or in Jonathan my son the unrighteousness is so	O God of Israel

Jehovah.The God of Israel,
give clear manifestations and if
this you should say, in your
people Israel,then give
Holiness.

1-Sam17:55-58 and	1-Sam17:55-58
1-Sam18:1-6	Add:Now at……and with lutes.
Omit	
1-Sam18:27	1-Sam18:27
100 Men	200 Men
1-Sam18:28	1-Sam18:28
With David,and all Israel was loving him	With David ..for Michael loved him
1-Sam20:5	1-Sam20:5
Omits	The Third
1-Sam23:13	1-San23:13

400Men	600Men
	Amended To read Treated the enemies of Jehovah with disrespected (2Sam-12:14)
Melchol	فرشتہ کانام Malcom
2-Sam12:30	2-Sam12:30
Add:	Omits
And the lookout come near and announced to the King and said.I have seen men from the way to Horonom by the Mountain side (2-Sam13:34)	2-Sam13:34
4 Years	40 Years
2-Sam15:27	2-Sam15:7

Ismaelite	Israelite
2-Sam17:25	2-Sam17:25
(Comp1-CH2:17)	
Targum/SY Comp6:23	Michal
Merab2-Sam21:8	2-Sam21:8
2-Sam21:14	2-Sam21:14
Add: And those hanged in the sun.	Omit
2-Sam23:8	2-Sam23:8
Three	K.J.V Omits
2-Sam23:17	2-Sam23:17
Shall I drink	N.W.T میں زیادہ کردیا ہے مگر Omits
2-Sam23:18	2-Sam23:18
Thirty	Omits

2-Sam24:6	2-Sam24:6
Land of Hittits Toword Kadesh.	Land of Tah-Tim-Hod-Shi
2-Sam24:13	2-Sam24:13
Three years of Famine	7Years of Famine
2-Sam23:19	2-Sam23:19
Head of three	Head of thirty
2-Sam14:5	2-Sam24:14
Add:And David made his Choice of deadly plage(15)And it was the days of the wheat harvest	But into the hand of man (but after that Omits)
1-King 4:32	VG/SY1-King4:32
Five Thousand	Songs…ThousandFive
1King 6:1	1-King 6:1

Four hundred and fourty years440	Four hundred and eighty years480
1-King 6:8	1-King 6:8
The enrance of Lowest	Middel
1-Ki 7:42	1-Ki 7:42
Upon the two pillars upon the top oft he pillars	N.W.T upon the two pillars M in front of the pillars
1-Ki 10:24	1-Ki 10:42
And all the Kings of earth	And all the people of the earth
1-Ki 10:8	1-Ki 10:8
Happy are your wives	Happy are your men
	1-Ki 21:10
	You have cursed
	Cursed was original
	The text is emended N.W.T
2Ki 8:10	2Ki 8:10

You will positively revive	You will not revive
2Ki 10:24	2Ki 10:24
Three hundred and eighty men	Jehu himself stationed
	Eighty Men
2-Ki10:16	2-Ki10:16
And he kept	And they Kept
2Ki 24:2,16:6	2Ki 24:2,16:6
Sy Emodites	Syrians
1-Ch11:11	1-Ch 11:11
Head of Three	Head of Thirty
VG secong Three	LXX,
SY Thirty	oft he three
2-Ch3:4 SY Tewenty cubits	2-Ch3:4
	Neight was a Hundres and twenty

2-Ch 22:2	2-Ch22:2
SY Twent Two Years	VG Fourty two years
2 Ch 36:9	2-Ch 36:9
Eighteen Years	VG Eight Years
(Comp 2 Ki24:8)	
Ezra 5:4	Esra5:4
They said to them	We said to them
NEH 7:68	NEH 7:68
Their horses were seven hundred and Thirty –Six thier mules two hundred and fourty five COMP EZR 2:66	Some MSS omit this verss
NEH 12:17	ایک نام MINIAMIN کے بعد کم ہے۔
8:1 ESTH 1:9,1:1	8:1 ESTH1:9,1:1
King Artaxerxes	King A-hasu-erus
Job5:8,6:4	Job5:8,6:4

Jehovah	El/Elohah
Job19:4	Job 19:4
Add:by Saying a Thing that was not necessery and my saying are mistake and not …..	After=my mistake will lodge omits
Job40:24 Continued this Chapter dor 8 more Vss	

SP

Isaac was sacrifice at Moreh near Schechem.(GEN22:2)

LXX	MT
Job 42:17	Job 42:17
	Omits

Add= And it has been written that he will rise again with those whom Jehovah raises up. This is described from the Syriae book as residing in the land of Austis (UZ), on the border of Idchmea and Arabia. And formerly his name was Jobab. After taking a Arabian wife , he became Father tos on whose name was Enon. But he himself was the son of his Father Zare, a son of the son Esau, but (was the son) og his mother Bosorah, so that he was the Fifth from Abraham and there are the Kings

that reigned in Edom, of which Country he also was.The ruler First Balack, the son of Beor, and the name of his City was Dennaba. But after Balack,Jehoab ,the son called Job, but after this one a son , who happened to be Governer out of the Country of Thaimamitis,but after this one one Adad,the son of Barad who cutt off Madian in the plain of Moab, and the name of the City was Gethaim.But the Friends of that come to him (were)Eliphaz,of the son of Esau,King of the Thamanites,Bidad the absolute ruler of Sauchaians,Zophar the King of the Minainas.

نام	MT	ST	LXX
Adam	130	-	230
Seth	105	-	205
Enos	90	-	190
Kainan	70	-	170
Malateel	65	-	165
Jared	162	62	162
Henoch	65	-	165
Mathusalam	187	67	167

Lamech	182	53	188
Noha	500	-	500
		کل عمر	
Adam	930	=	=
Seth	912	=	=
Enos	905	=	=
Kainan	910	=	=
Malaleel	895	=	=
Jared	965	847	
Henoch	365	=	
Malhusalam	969	720	
Lamech	777	653	
Noha	950	600	

مزید صفحہ 172 پر دیکھیں

MT	LXX
Job42:16	Job42:16

Job lived..hundred and fourty(but LXX omit eight) Eight years.	Job lived ….hundred and fourty eight years.
PS 13:6	PS 13:6
Add=And I shall move melody to the name of Jehovah the most highly.	Omits
PS 14:1	PS14:1
There is not even one	After …no Jehovah omits
PS 14:3	PS 14:3
And VG= Add= Their throut is am opened grave, they have used ….. with their Tongues poison of asps is behind their lips .And their mouth is full of Cursing and biller expressions. Their feet are speedyto shed blood.Rain and misry are their ways and they haven't known the	Omits after not even one

way of peace. There is no fear of God before their eyes.

(Comp Rom3:12-18)

PS 40:6	PS 40:6
Secrifice and offering you didn't want, but you prepared a body for me	Secrifice and offering you did not delight im these ears of mine opend up

(Comp Heb 10:5)

Add one more Psalams	No. 151
Pr 6:24	Pr 6:24
VG= Maried Womedn	Sy=Bad Women
EZEK 40:44	EZEK 40:44
South	East
After Fiery Furnace make	LXX and VG
Make a long insertions	(DAN 3:23)

بائیبل میں بار بار دہرائی جانے والی آیات

2-Sam=PS 18

2-Ki 18:13-20=IS 36:1-38,8

PS 14 and 53

SP After EX 20:17	EX 20:17
Command to build a sane tuary on MT. Gerizim	

SP, Preserved by sectarian community has about 6000 variants when compared with MT, and it shares about1,600 of these with LXX.

DET 27:4	DET 27:4
Mount of blessing is MT Gerizim	Mount of blessing is MT Ebal
4QEX Ex 40:17	Ex 40:17
Add from their leaving Egypt	Omits
4QPaleo Ex 32:10	Ex 32:10 MT
After I will make you a great nation. Add and yehveh was very angry with Aaron se as to be ready to	Omits

destroy him but , but Moses prayed

on behalf of Aaron(als SP)

4Q Num 20:13	Num 20:13
Add Det 3:23-24	Omits
(also SP)	

The LXX of Jermiah difference from MT laking one word in every eigt, or about 2,700 words for t he whole book.

Jer 10:6-8 Omitted in LXX & some is omitted in 4QJR.

1 Sam 10:1 LXX

Add

After has not

Yahweh anainted you as commander over his people , over israel? And you shal govern the people of Yahweh and save them from the hand of their enemies round about. And this will be a sign to you the Yahweh has onainted you to be commander over his heritage.

1 Sam 29:10

Add afer with you

And go to the people which i pitched for you ,and don't harbor a hostile Idea in your heart for you are acceptable to me.

Jer 25:6-7

Omitts

And do not provoke me to anger with the work of your hands the i will do you noharm.

LXX	1 Sam 17:32	MT
Heart of my lord.		Heart of man

Jer 11:7-8 LXX

Omitts folowing verses

For i solemnly warnd your Fathers when i brought them out of the land of Egypt, warning them persisently, even to this day , saying, obey my voice yet, they didn't obey or incline their ear, but every one walked in the stubbornness of his evil heart. Therefore i brought upon them all the words of this convenant ,which i command them to do , but they didn't.

2-Sam 11:22-23 LXX

Add: after Joab had instructed him all the words of war, And David was angry with Joab.And he said to the messener, why did you know that you would be struck down from the wall?

Who killed Abimelch, son of Jerubballe. Did not a woman throw on him an upper millstone from the wall and he died in thebes. Why did you come near the wall.

Jer LXX

Omitts the following

With lord of hosts, that the vessels which are left in the house of Yahweh in the house of the King of Judah and in Jerusalem may go to Baby lon. For thus says Yahweh of hosts concerning the billars, the sea, the stands and the rest of vessels which are left in the City, which Nebuchadnezzar……(and after Jeconiah) The son of Jehoia Kim King of Judah, and all the nobel of Juda and Jerusalem-this says Yahweh of hosts , the God of israel, concerning the vessels which are left in the house of Yahweh in the house of King of Judah, and Jerusalem …………..renaim there until thay day when I give attention tot hem says Yahweh then i will bring them back and restore them to this place.

Jer 33:14-26

Is omitted by LXX

Choronolgy LXX

King of Judah	Regnal Years	Synchronism
Jehoshafhat	25	Lithofomeri L Ki 16:28
Jehoram	11	2nd of Ahaziah 2 Ki 8:16
Ahaziah	1	11th of Joram 2K8:25
King of Israel		
Omri	12	31st of Asa 1 Ki 16:23
Ahab	22	2nd of Jehoshaplat 1Ki16:29
Joram	12	2nd of Jehoram 2Ki1:18

Contemporaries, but LXX makes omri third Contempararies while MT gives that distinetion to Joram.

Choronology MT

King of Judah	Regnal Years	Synchronism
Jehoshaphat	25	4th of Ahab 1-Ki 22:41
Jehorom	8	5th of Joram 2-Ki8:16
Ahaziah	1	12th of Joram 2-Ki8:25
King of Israel		
Omri	12	27th of Asa 1-Ki16:15-16:23
Ahab	22	38th of Asa 1-Ki 16:29
Ahaziah	2	17th of Jehoshaphat 1=Ki22:52
Joram	12	18th of Jehoshaphat 2-Ki 3:1

Most significant difference between these two choronology is the alternative list of three Contemporaries produced for Jehoshplat. According to MT, Ahab,Ahaziah and Jeram ruled in Jehoshaphat's days in Israel in the LXX the Contemporary N Kings were Omri, Ahab and Ahaziah both agree that Ahab and Ahaziah were Jehoshaphats.

GEN4:6:7Tg

Lord said to cain....surely. If you will improve your deeds.You will be forgiven; but if you will not improve your deeds(your) sin will be kept for the day of Judgement when punishment will be exacted of you, if you will not repent, but if you will repent, you will be forgiven.

GEN5:24Tg

And Enoch Walked....then he was no more for the Lord had caused him to die.

2-John II

Vg Add

Look i have told you before hand so that you may not be confused in the day of the Lord.

Rom 8:35

ACDIT Vg Sy Love of Christ

N Love of God

B God that is in Christ Jesus.

“Origen“

Origen brings against the Jews a charge that the Jews Falsily and mutilate the Seripures 1 He is convinced that there is a want of agreement between the old and new copies of the Jewish Bible and that much which exhibited a christian Tendency in the former, has been disfigured in the latler.2

2(In MT com acr§28 Xiii1630 M)1(HOM in Jerem XVI 10 VIII 451 M)

"Jerome"

Jerome thought that most Copies of the Scriptures that were in Circulation were untrust worthy again Jerome(Pracf- in Gen(IX=6)) very frequently write in his writings that the Jewsinsist that the Cristian copies of the Bible were erroneows.

Justin

Jewish blamed to Christians that they usually read into the Bible more than it contained Moreover their copies were often incorret and also Christians blamed that the Jews had falsified and multilated that text for Polemical purposes.

"Justin accuses the Jews of altering in is VII 14 in order to nullify a Christological argument"

(Dialogue-C68(VI633M)

He qoutes many passages which he alleges, are only to be found in the old Texts, but have been omitted from the new editions.

(The Jewish Quarterly Review January1894)(Dialogue C72(VI645 on Jerem XI 19)Page,129,141,145

SP	MT
EX 20:18	EX20:18
And all the people heard the voices	All the people saw the Thunderings………..

GEN 3:15 Tg

Add After

I will put enmity….And i will come about that when her sons observe.The la wand do the commandment they will aim and at you and smite you on (your head and) kill you.But when they for sake the Commandment of the law(you will aim and) bite him and make him ill.For her sons however there will be remdy but for you o serpent thse will be no remedy.Since they are to make appearment in the end in thay day of King Messiah.

PS.Jonathan Tg ترجوم میں زائد عبارات

پیدائش9:22حضرت ابراہیمؑ کے عبادت گاہ بنانے کاذکروہ فرمان گاہ جو آدم۔نوح نے نیالی اوران کے بیٹے نے پتھر پکڑاتے

(instead of Moriah) get into the land of Worship. پیدائش 2:22

پیدائش2:14:8ان سے نکلنے والے دریاؤں کاذکر

پیدائش2:15آدم کوضیت میں کام کرنے اوراحکام خداوندپر عمل کرنے کے لیے رکھا

پیدائش3:14 شیطان کومعلون قرار دینے۔۔۔۔۔

پیدائش3:20۔23زائید عبارت

پیدائش8:4۔۔۔۔۔اور بائیبل کا سکالم زائد ہے۔

In his Comment on MT 15:14

The loving one's neghbour as one self in MT 19:19 does not fit into the context of the story.He assumed that it was added to the text this passage also omitted in Parallel MT 10,19 and LU 18:20

Gospal Hebrews (Mathew)

If somebody accepts the Gospal according to the Heb, where the Savior himself sys. A moment ago my mother the Holy spirit took me by one of my hairs and brought to the great hill , the To bor.

Origen Comment in Johannen 2:12

DET 32:6

LXX And let him be great in number.

Vg And let him be small in number.

(دونوں بالکل متضاد بیانات ہیں)

نیا عہد نامہ کے حوالے جو MT میں موجود نہیں ہیں

MT 27:9-10

Spoken by Jermiahthe prophet saying

They took the thirty pieces of silver. The price of him that was valued….and gave them for the potter's field, as the Lord appointed me. These words are not found in Jermiah but in ZECH 11:12-13 but not as propheey.

MT 3:13-15

یہوواوالوں نے ترجمہ میں تبدیلی کر دی ہے۔

یہاں متی یسوع کے بپتسمہ لینے کے بارے میں کسی پیشگوئی کا ذکر کرتا ہے جو کہیں پرانا عہد نامہ میں موجود نہیں ہے۔

MT 23:35

برکیاہ کے بیٹے زکریا جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا۔

زکریا بن یویدع کے قتل کا واقعہ 2-تواریخ 24:21،24:20 میں ملتا ہے مگر زکریا بن برکیاہ کا کہیں نہیں ملتا۔

MAKT 1:2:3

It is written in ISAIAH the prophet.

I well send my messenger ahead of you who will prepare your way not be found in ISAIAH but in Malachi 3:1 K.J.V omits ISAIAH.

MARK2:25:26

In a days of Abiathar the high priest he (David) entered the house of God and ate the consecrated bread.

According to 1-Sam 22:20,21:1-4 and 1-Chr 24:1-4.

The high price at that time was A-him-eleech not Abiathar.

LUKE 20:18

That is written

Whosoever shall fall upon that stone shall be broken; but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder.

“Nowhere is to be found“

LUKE 24:46-47

And said unto them, Thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day: And that repentance and

remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem.

Acts 20:35

Jesus said

I have shewed you all things, how that so labouring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, It is more blessed to give than to receive.

1-Cor14:37

Commandment of Lord

Let your women. Keep silence in the churches for it is not permitted into them to speak.

1-Cor 15:3

Christ was rose again…and he was seen of the Twelve.

When he rose their were only eleven.

MT 5:43

You have heard

Thou shalt …. hate thine enemy.

Act 7:15 O.T میں نہیں ہے 46:9-10 جوبلی میں ہے

Acts 13:41

Spoken by Prophets LXX(Hab 1:5)

"Behold ye despiser ''

Acts 26:22-23

Prophet and Moses said……

That Christ should suffer, and that he should be the first that should rise from the dead, and should shew light unto the people, and to the Gentiles.

Rom 9:52

Ho soa says

Those not my people i will call my people and her who was not beloved.

Rom 11:26

It is written

The deliverer will come out of Zion and turn away ungodly practices from Jacob and this is the convent on my part with them when I take their sins away (PS 14:7/ISA59:20 LXX)

Act 8:28 Acts 8:32-33

Written in Isariah

During his humilation the judgment was taken away from him. Who will tell the detail of his generation? Because his life is taken away from the earth (ISA 53:7-9).

Act 7:42-43 بہت مختلف ہے۔

It is written in the book of Prophets

‘‘Oh house of Israel….But it was the tent of Molch and the star of the God Rephan that you took up the figures which you made to worship them Consequently I will deport you beyond.

Bablon:

LXX(Comp:Amos5:25-27)تحریف کی عمدہ مثال ہے۔

Rom 15:12

Isaiah says

……and there will be one arising to rule nations on him nations will rest their hope (Comp Isaiah 11:1,10)

1-Cor2:9

It is written

" Eye has not seen and ever has not heard neither have there been concieved in the heart of man. The things that God has prepared for those who love him. (Comp Isaiah64:4).

خدا کے متعلق ہے۔

1-Cor 15:3-4

According to the seriptures

" Christ died for our sins…..and that he was buried…he has been raised up the third day according to the scriptures.

کتاب مقدس سے مراد پرانا عہد نامہ ہے مگر وہاں الٰہی کوئی پیشگوئی نہیں ہے۔

Heb 1:6

But when he again brings his first born into the inhabited earth he says: And let all God's angels do worship to him. (LXX Det 32-43) (PS96-7LXX)

Heb 1:8

But with references to the son (says) God is your throne forever and ever (Comp Ps 45:7)

یہ علامات یسوع میں نہیں پائی جاتیں۔but also Comp (Ps 45:3, 4,5)

Heb2:12

He says

I will declare your name to my brothers, in the middle of Congregation I will prais you with song.

(Comp/PS also22:21)صلیب سے بچایا

Heb 9:19-22

He took the

blood…..and sprinkled the book.

(Comp Ex 24:3,Ex 24:8/Nu 19:6)

کتاب پر چھڑکنے کا ذکر نہیں ہے۔

Heb 11:21

Jacob….worship learning upon the top of staff.

(Comp Gen 48:20,47:31)

Heb 11:35

Women recieved their dead by resurrection but othesr were tortured because they would not accept release by some ransom, in order that they might attain a better resurrection.

Heb 11:37

They were stoned, they were sawn asunder, were tempted, were slain with the sword: they wandered about in sheepskins and goatskins; being destitute, afflicted, tormented

Jude:4and 2-Pet 2:4

God did not hold back from punishing the angels that sinned but by throwing them into Tartarus delivered them to pits of dense darkness to be reserved for judgement.

Jude 9

Michael the archangel had a difference with the Devil and was disputing about Moses body.

Jude 14

Enoch prophesied als regarding Them....Jehovah come with his holy Myriads.

Heb11:24

By faith Moses...refused to be called the son of the daughter of Pharaoh.

3-Joh 1:12

Demetrius has had witness born to him by them all and by the train itself.

انجیل یوحنا

John 7:8 بعض قدیم ترین مسودات میں YET کے لفظ نہیں ہیں۔ یہ لفظ بعد میں اضافہ کیا گیا ہے کیونکہ اس لفظ کے بغیر یسوع کا جھوٹ بولنا ثابت ہے۔

اعمال 7=15-16

یعقوب مصر میں گیا وہاں وہ اور ہمارے باپ دادا مر گئے اور وہ شہر جو بلی 46:9,46:10 شکم میں پہنچائے گئے اور اس مقبرہ میں دفن ہوئے جسکو ابراحام نے۔۔ میں روپیہ دیگر نبی حمور سے مول لیا۔

عہد نامہ جدید (NT) کے مختلف مسودات میں فرق

MT 12:46-47

K.J.V

…..his mother and his brethrem stood without desiring to speak with him.

A.T

his brother and his Mothers…..stood outside….wanting to speak to him.

MT19:17

K.J.V

And he said …why callest me thou good.

A.T

Why do you ask me about what is good.

MT 20:16

K.J.V

Add: for many be called but few chosen.

A.T

Omits these word after who are first will be last.

MT 24:36

K.J.V

Omits   nor the son

A.T

Adds: nor the son.

انجیل متی میں کے وہ الفاظ اور آیات جو بعض مسودات میں نہیں ہیں

21:31 in some first but in some is last

5:22=The word“without a cause“ is not found in best ancient manuscripts.

6:13= The dexology at the end of the Lord’s prayer does not appear in the best ancient G M (Aleph, B, D, Z) and the old Latin and Vg-it is liturgical addition evidently based on 1Chr 29:11

12:47: not present in most ancient G M. It has crept into the text from MARK 3:2

16:2,3=The saying about the sign of the times is not found in OGM or in the best versions.

17:21=not found in OGM crept into Text from MARK9:29

18:11=not found in OGM crept from Luke 19:10

24:36 omits Nor the son

جو کچھ نبیوں نے کہاں پورا ہوًا کے الفاظ زائد ہیں۔ بعض میں نہیں ہے۔

انجیل مرقس

1:1=“The son of God“These words are not present in some G.M and in early Christian citations added for MARK 15:39.

6:20= ‘‘He did many things“ but the best A.M read“ He was very much disturbed“.

6:33=“Come together into him“ The best A.M read“Got a head of them“

9:49=“And every sacrifice shall be salted with salt“These words are not in O.G.M crept into the text from LEV 2:13

10:24=“For them that trust in riches“not present in O.G.M

14:51="The young Men" not present in O.G.M

14:68="And the Cock crew" not in O.G.M

14:30=in some O.G.M word Twice

بعض میں جو لکھا تھا پورا کہ وہ گناہ گاروں میں گناہ کے الفاظ زائد ہیں۔=15=27-28

انجیل لوقا

4:8="Get behind me , Satan=not present in O E Best G.M crept into from MT 4:10E16:23

4:44="Galilee" The BE.O.M read"Juda"

6:1=on the second sabbath after the first=The G word translate"second after the first" is not persent in O.G.M

9:55="and said, ye know not what manner of spirit ye are of" These words are not present in OEB G.M

9:56="For the son of man is not come to destroy men's lives, but to save them" These words are not present in most of OEB.G.M including all the oldest and best.

17:36=Verse is not present in O.G.M

22:43-44= Verse is not present in O.G.M

22:19,20=Which is given for you……which is shed for you not present in codex of Beza and other western witness-crept into from 1 Cor-11:24-25.

22:68=“nor let me go“ not present

23:34=not present in OEB.G.M

23:38=not present“letter of in G.L and Hl. brew“

24:6=not present in the Codex of Beza and W.W the word“He is not here, but is risen“

24:12=Verse is not in Codex of Beza EWA

24:36=not in Codex of Beza and W-W

24:40= not in Codex of Beza and W-W

24:51=“and carried up into heaven= word are not present in Codex Beza and Codex Sinaitic M the Sinaitic Syriac and a number of early Latin witness.

24:52=“and they worshipped him“ Words are not present in Codex Beza and number of Latin witnesses.

خدا کے کلام میں کچھ نہ بڑھانے اور گھٹانے کا حکم

استثناء32،12،4:2،امثال30:6،مکاشفہ22:19،22:18

بعض میں13:1 10:45 MARK

کیا یہ کتاب اضافی ہے: پھر ایک اور کتاب کھولی گئی کتاب حیات-نیز اور کتابیں کھولی گئیں۔ مکاشفہ20:15،20:11

نئے عہد نامہ(NT)میں اختلافات

واقعہ صلیب کے بیان میں اختلاف

1) تین دن کے بعد جی اٹھے گا=مرقس10:33،8:31،10:34

تیسرے دن زندہ کیا جائیگا=متی17:23،17:22

2)اس پر وہ بہت غمگیں ہوئے=متی17:23،17:22

لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے=مرقس9:32،9:32

ان باتوں کا مطلب ان کی سمجھ میں نہ آیا=لوقا18:31تا18:34

3)شیطان یہوداہ میں پہلے ہی سمایا ہوا تھا=لوقا22:6

نوالہ لینے کے بعد شیطان یہوداہ میں سما گیا=یوحنا13:26

4)اس رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو(پطرس) تین بار میرا انکار کرے

گا=متی26:35،26:34،لوقا22:6،22:34

آج اسی رات مرغ کے دو بار بانگ دینے سے پہلے تین بار میرا انکار کریگا=مرقس14:30

صرف ایک بار ہی مرغ نے بانگ دی تھی کہ پطرس نے تین بار انکار کر دیا اور لعنت کی اور تیسری بار انکار کرنے کے بعد مرغ نے

دوسری بار بانگ دی=مرقس14:66تا14:72

مگر متی کے مطابق پطرس کے تین دفعہ انکار کرنے اور لعنت کرنے کے بعد مرغ نے پہلی دفعہ بانگ دی=متی26:75،26:69

5)یہوداہ اسکریوطی نے بوسہ دے کر یسوع کی نشاندھی کی

متی50،26:47،مرقس47،14:43،لوقا48،22:47

یسوع نے خود اپنی نشاندھی کی=یوحنا12،18:2

6)یسوع نے پیلاطوس کے کسی سوال کا جواب نہ دیا

متی14،26:13،مرقس5،14:4

یسوع نے پیلاطوس کے بعض سوالوں کا مفصل جواب دیا=یوحنا11،17:10

7)صلیب دیے جانے کا وقت

اس کی تعاری کا دن اور چھٹے گھنٹے کے قریب تھا=یوحنا19:14

یعنی چھٹے گھنٹے کے قریب ابھی پیلاطوس کی عدالت میں تھا۔

پہر دن چڑھا تھا جب انہوں نے اسکو صلیب دیا=مرقس15:25Third hour

ہے کہ یہاں واضع اختلاف ہے۔اس کے متعلق یہوداوالوں نے اقرار کیا۔

8)دونوں چوروں نے لعن طعن کی=مرقس15:32

صرف ایک نے لعن طعن کی=لوقا43،23:39

واقعات صلیب میں اختلاف

9) ''میں کیا ملا تھا''

پت ملی ہوئی ہے اسے پینے کو دی=متی27:34

مر ملی ہوئی ہے اسے دی=مرقس15:23

10) ''چوغہ کا رنگ''

ارغوانی رنگ کا چوغہ پہنایا=مرقس15:17

قرمری(رنگ)کا چوغہ پہنایا=متی27:28

11) ''فرشتوں کی تعداد''

ایک جوان سفید جامہ پہنے ہوئے بیٹھا تھا=مرقس16:1،5

دو شخص براق پوشاک پہنے کھڑے تھے=لوقا24:2،4 شخص یا فرشتے

دو فرشتوں کو دیکھا=یوحنا20:12

12) ''آخری الفاظ''

زبور22:1ایلی۔ایلی لما شبقتنی=متی27:46،50(عبرانی)

الوہی۔الوہی لما شبقتنی۔مرقس15:34،36آرامی

زبور31:5اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں سونپتا ہوں=لوقا23:46

میں پیاسا ہوں=سرکہ پیا اور جان دے دی=یوحنا19:28،30

13)

نئے عہد نامہ میں غیر تاریخی واوقات

قیدی کو چھوڑنے کا دستور=

حاکم کا دستور تھا=متی27:15،مرقس15:6،لوقا23:17

(نوٹ)لوقا23:17بعض یونانی مسودات میں نہیں ہے

حاکم نے کہا تمہارا دستور ہے=یوحنا18:29

مگر تاریخی طور پر یہ ایسا کوئی دستور ثابت نہیں ہے نہ ہی یہودیوں کا اور نہ ہی رومی حکومت کا

Insight on the Scriptures 1 under word “Barbaras“ by
W.B ET S-NY Edd 1988 Page 251

14)“زلزلہ اور مردوں کا زندہ ہونا”

زمین لرز گئی=چٹانیں تڑک گئیں۔ قبریں کھل گئیں۔ مردے زندہ ہو گئے زندہ ہو کر مقدس شہر میں گئے۔ بتوں کا دکھائی دیئے

بھونچال آیا=متی 27:51،54

ایسے کسی زلزلہ یا مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ کا ذکر تاریخ میں نہیں ملتا۔

15)جتنے اس وبا سے مرے انکا شمار چوبیس ہزار تھا= گنتی 25:9

ایک ہی دن میں تیئیس ہزار 23000 مارے گئے=1-کرنتھیوں 10:8

اعداد و شمار کے اختلافات

1)اسرائیل میں آٹھ لاکھ۔۔۔یہوداکے پانچ لاکھ=2-Sam 24:9

اسرائیل گیارہ لاکھ یہودا 4 لاکھ ستر ہزار=1-Chr 21:5

2)سات برس قحط یا تین ماہ دشمن سے بھاگنا یا تین دن مری 2-Sam24:13

تین برس قحط۔۔۔1-Chr 21:12

3) تین ہزار تین سو منصبدار اسی ہزار درخت کاٹنے والے =1-Ki 15-5:16

اسی ہزار پتھر کاٹنے والے تین ہزار چھ سو نگران=

2:2 Chr-2 (5:16 Ki-1 =3600 LXX)

4)یعقوب کے ساتھ 70 افراد مصر گئے=GEN 46:27،DET10:22

75 افراد مصر گئے=Act7:14

5)یہویاکین 18 برس کا تھا=2-Ki24:8

یہویاکین 8 برس کا تھا=1-تواریخ 7:26

6) تین ہزار بت کی سمائی تھی=4:5Chr 2

دو ہزار بت کی سمائی تھی=7:26Ki-1

LXX میں 7:26Ki-1 بت ہی نہیں ہے۔

8) کسی نے سات بیٹوں کو سیموئیل کے سامنے نکالا (کسی نے کہا) سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا ہے (یعنی کل 8 بیٹے ہیں)-16:10-11Sam-1

کسی سے اسکا پلو ٹھا الیاب ابنداب سمع[3]۔ نتنی ایل۔ روی، عوصم، داؤد ساتواں=1-تواریخ 15-2:13

9) یورام بتیس برس کا تھا جب سلطنت کرنے لگا اس نے آٹھ برس سلطنت کی

(کل عمر 40 سال)=2-تواریخ 20-19- :21

(یورام کی وفات کے فوراً بعد) اسکا بیٹا اخزیا۔۔۔ بادشاہ بنا وہ بیالیس برس کا تھا جب سلطنت کرنے لگا۔

''باپ سے بیٹا عمر میں بڑا'' 2-تواریخ 2-22:1

10) یرلعل یعنیجد غون کے ستر بیٹے تھے=قضاۃ 8:30 یرلعل کے ستر بیٹے قتل ہوئے مگر چھوٹا بیٹا بونام بچا رہا=9:5

ایک میں تعداد 70 دوسرے میں 71 بیان ہوئی۔

کتاب عزرا باب 2 نحمیاہ باب 7

''اسیری بائیبل سے آنے والوں کی تعداد''

1)	بنی ارخ 775=عزرا 2:8	بنی ارخ 652=نحمیاہ 7:10
2)	بنی رتو 945=عزرا 2:8	بنی رتو 845=7:13
3)	بنی بخت جواب جو یشوع اور یورب کی اولاد تھے 2812=عزرا 2:6	بنی بخت جواب جو یشوع اور یورب کی اولاد تھے 2818=نحمیاہ 7:11
4)	بنی بی 623=عزرا 2:11	بنی بی 628=نحمیاہ 7:16
5)	بنی بانی 642=آیت 10	بنی 648=آیت 15
6)	بنی عزجاد 1222=آیت 12	بنی عزجاد 2322=آیت 17
7)	بنی ادونقام 666=آیت 13	بنی ادونقام 668=آیت 18

(8	بنی بگوی2056=آیت14	بنی بگوی2068=آیت19
(9	بنی عدین454=آیت15	بنی عدین655=آیت20
(10	بنی بضی323=آیت17	بنی بضی324=آیت23
(11	بنی حاشوم223=آیت19	بنی حاشوم328=آیت22
(12	بیت لحم123+اہل نطوفہ56 کل179=آیت21،22	بیت لحم اور اہل نطوفہ188=آیت36
(13	بیعت اہل اور عی223=28	123=آیت32
(14	بنی ستاآہ3630=آیت35	3930=آیت38
(15	لود،حادید،،اونو725=آیت33	721=آیت37
(16	بنی آسف128=آیت41	148=آیت44
(17	بنی دلایاہ،طوبیاہ،نقود652=آیت60	642=آیت62
(18	گانے والے200=آیت65	245گانے والے=آیت67
(19	دربانوں کی نسل139=آیت42	138=آیت45
(20	کل تعداد42360=عزرا2:64	کل تعداد42360=نحمیاہ7:66

21)سرداروں نے دیا سونے کے61000درہم،چاندی کے5ہزار منہ اور کانوں کے100پیرائین=عزرا2:69
سرداروں نے دیا سونے کے بیس ہزار درہم چاندی کے دوہزار دو سو چاندی کے منہ=نحمیاہ7:71-72
عزرا نے کل تعداد42360بتائی ہے مگر حاصل جمع21818ہے۔
نحمیاہ نے کل تعداد42360بتائی ہے مگر حاصل جمع31079ہے۔
مگر یوسفین نے تعداد42462دی ہے ANT Book11 Chap. 1

(22	120ہاتھ اونچائی=3:4Chr-2	اونچائی30ہاتھ=6:2Ki-1
(23	24ہزار مارے گئے=25:9NU	23ہزار مارے گئے=1-کرنتھون10:8

		(23LXX ہزار مارے گئے)

24) پیدائش 46:15 میں افراد کی تعداد 33 دی گئی ہے مگر گنتی کرنے پر حاصل جمع 34 بنتا ہے۔

25) 1-تواریخ میں تعداد 6 دی ہے مگر 5 ہے = 1-تواریخ 3:22

26) تعداد گاؤں 29 دی ہے مگر 37 ہے = یشوع 32-15:21

27) تعداد گاؤں 14 دی ہے مگر 16 ہے = یشوع 36-15:33

عہد نامہ قدیم (OT) میں اختلافات

خیمہ اجتماع ہر کام کرنے والوں کی عمر 20 سے 50 سال گنتی = 4:1-2	25 سے 50 سال گنتی 24-8:23
20 برس اور اس سے اوپر والے گنے گئے = 1-تواریخ 23:24	30 برس اور اس سے اوپر والے گنے گئے = 1-تواریخ 1-23:1 3

"لاوی کے پلوٹوں کی تعداد"

جیر سونی 7500 گنتی 3:22 قہائی 8600 گنتی 3:28 مرادی 6200 گنتی 3:34 کل تعداد 22300	مگر گنتی 3:39 میں کل تعداد 22000 لکھی ہے۔

پھر لکھا ہے بنی اسرائیل کے پلوٹوں کی تعداد 22273 تھی = گنتی 3:43

اس طرح بنی اسرائیل 273 لاویوں سے زیادہ تھے = گنتی 3:46

"بنی اسرائیل کی تعداد"

20 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کی تعداد 63550 = خروج 38:26 نیم مشقال فی آدمی کے حساب ہدیہ کی مشقال 1775 عدد خروج 38:26	حالانکہ اشقال کی تعداد 2:1 مشقال کے حساب سے 317750 ہونا چاہیے

"اختلافات"

ساؤل کی بیٹی میکل بے اولاد تھی=2-Sam6:23 میکل کے عدری ایل سے 5 بیٹے تھے=2-Sam21:8
میکل فلطی ایل کے بیٹے لیس کی بیوی تھی=2-Sam3:15 میکل برزلی محولا کے بیٹے عدری ایل کی بیوی تھی=2-Sam21:8
صدقیاہ یہویاکین کا بھائی تھا=2-Chr36:9-10,3:16 صدقیاہ یہویاکین کا چچا تھا=2-Ki24:17
ابراھام، اسحٰق، یعقوب خدا کا نام یہواہ جانتے تھے۔ پیدائش=22:14، پیدائش 4:26 ابراہیم۔ اسحٰق۔ یعقوب پر خدا نے اپنا نام یہواہ ظاہر نہیں کیا تھا= خروج 6:2-3 Anchor Dictionary of Bible کے مطابق یہاں لفظ اصل میں ایلوہیم تھا۔ جسکو بعد میں "Jehovah" میں بدل دیا گیا ہے۔ دیکھیں زیر لفظ "Moriah" (Page905)
پہلے انسان پیدا کیا گیا تھا= پیدائش 2:19 پہلے جانور اور پرندے پیدا کیے گئے= پیدائش 1:24-26
انسان خدا کو نہیں دیکھ سکتے= خروج 33:20، 1-TIM6:16، یوحنا=5:37 یعقوب نے خدا سے کشتی کی، روبرو دیکھا= پیدائش 32:28، پیدائش 32:30 موسیٰ نے روبرو باتیں کیں اور خداوند کو دیکھا= گنتی 12:8
معکہ بنت ابی سلوم آسا کی ماں تھی=1-Ki15:9-11 معکہ بنت ابی سلوم ابیام کی ماں تھی=1-Ki15:1-2
یعقوب کے تمام (12) بیٹے فدان ارم میں پیدا ہوئے= پیدائش 35:26 افرات اور بیت ایل کے درمیان (کنعان) میں پیدا ہوئے= پیدائش 35:16-19

''حزقیاہ بے گناہ اور بے مثال تھا'' حزقیاہ نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا خدا پر توکل کرتا تھا ایسا کہ اس کے بعد یہوداہ کے سب بادشاہوں میں اسکی مانند ایک نہ ہوا نہ اس سے پہلے کوئی ہوا خداوند سے لپٹا رہا۔ حکموں کو مانا=18:1-8Ki-2 ''یوسیاہ بے گناہ اور بے مثال تھا'' یوسیاہ نے شریعت میں لکھی ہوئی باتوں کو پورا کیا۔ اس سے پہلے کوئی بادشاہ اسکی مانند نہیں ہوا نہ اس کے بعد ہوا جو اپنے سارے دل جان اور زور سے موسیٰ کی ساری شریعت پر عمل کرنے والا ہو=23:24-28Ki-2
''شفا پائے گا۔ نہیں پائے گا'' بن ہدد ضرور شفا پائے گا خداوند نے بتایا کہ وہ مر جائیگا= 8:14-15Ki-2, 8:9-10Ki-2
سمعی بن جیرا ساؤل یعنی (بنیمین) کے گھرانے سے تھا 16:7 Sam-2 سمعی بن جیرا یوسف کے گھرانے سے تھا=19:18 Sam-2
داؤد کے بیٹے کاہن تھے=8:18 Sam-2 داؤد کے بیٹے بادشاہ کے مصاحب تھے=18:17 Chr-1 (نوٹ) ''یاد رہے کہ کاہن سوائے بنی۔۔۔۔۔۔کے نہیں ہو سکتے''
ابراہیم اور نحور کا باپ تارح دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے=یشوع24:2 ابراھام۔ نحور اور تارح کا خدا ایک ہی تھا=پیدائش31:53
مواب، ادوم کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو گزرنے نہ دیا= قضاۃ گنتی 11:17-18/20:14,18,21 ادوم اور مواب کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو گذرنے دیا=استثناء2:29
بلق بن صفور ابنی اسرائیل سے کبھی نہیں لڑا=قضاۃ11:25 بلق بن صفور ا اسرائیلوں سے لڑا=یشوع24:9

بلعام بن بعور نجومی تھا=یشوع13:22 بلعام بن بعور خدا کا نبی تھا=گنتی24:15,24:4,22:12,20,35,38 موازنہ نبی کی تعریف گنتی12:6 بلعام کی پیشگوئی گنتی باب23، باب24
غیب کا علم صرف خدا کو ہے=استثناء29:29 لونڈی کو بھی غیب کی خبر دی=اعمال16:16-18 عورت کو غیب کا علم تھا=1-Sam28:8-15
آسا نے اونچے مقام گرادیئے=2-تواریخ14:3 آسا نے اونچے مقام نہ گرائے=1-سلاطین15:4
آسا کی سلطنت کے 32 سال تک کوئی جنگ نہ ہوئی 2-تواریخ15:9 آسا اور بعشا میں عمر بھر جنگ رہی=1-سلاطین15:16
حیرام نفشانی قبیلہ سے تھا=1-سلاطین 7:13 جاں نفشانی باپ صور کا باشندہ= ماں دان کے قبیلہ سے تھی=2-تواریخ2:14
سلیمان نے حوارام کو بیس شہر دیئے=1-Ki9:10-13 حوارام نے سلیمان کو شہر دئے=2-تواریخ8:1-2
مصری سمندر کے کنارے پڑے تھے=خروج14:30-31 مصری سمندر کی تہ میں چلے گئے۔ پانی نے انہیں چھپالیا وہ سیسہ کی طرح ڈوب گئے=خروج15:4-5
مدیانی عورت سے شادی پر کوئی سزا نہیں موسیٰ کی بیوی مدیانی تھی=خروج2:16-21 مدیانی عورت سے تعلق پیدا کرنے پر سزا=گنتی25:6-9 (سزا دینے کو وجہ مدیانی قوم کا بت پرست ہونا تھا)
خدا کا حکم تھا کہ نبی عیسو (ادوم) کے علاقہ سے نہ گزریں اسلئے بنی اسرائیل کترا کر گزرے=استثناء2:1-8

بنی عیسو نے بنی اسرائیل کی خواہش کے باوجود گذرنے نہ دیا اسلئے کترا کر جانا پڑا= گنتی 20:14-21

ستائے جانے پر ہجرت نہ کرو= واعظ 10:4

ستائے جانے پر ہجرت کر جاؤ= متی 10:22

بغیر خون بہائے گناہ معاف نہیں ہو سکتے= عبرانیوں 9:22

دعا سے گناہوں کی معافی= یعقوب، 8:27-30Ki-15:15

بخور جلانے سے معافی= گنتی 16:46-49

شفاعت سے معافی= گنتی 11:1-3,12:13-15,14:18-20

رجوع اور توبہ سے معافی= 2-تواریخ 6:25-39

توبہ اور رجوع اور ترک گناہ سے معافی= لیعیاہ 55:6-7 نیکی۔ انصاف کرنے۔ سچائی کا طالب ہونے پر معافی یرمیاہ 5:1

دوسروں کے قصور معاف کرنے سے معافی= متی 6:14

دعا سے معافی= متی 6:12

اگر تم قصور نہ معاف کرو گے تو خدا بھی معاف نہیں کریگا= متی 6:15

مسیح کو گناہ معاف کرنے کا اختیار= متی 9:5-6، مرقس 2:9

توبہ کرنے والے کو معاف کرنے کی تعلیم= لوقا 17:3

حواریوں کو گناہ بخشنے کا اختیار= یوحنا 20:23

عماسا کا باپ اسرائیل تھا= 17:25Sam-2

عماسا کا باپ اسمٰعیل تھا= 1-تواریخ 2:17

’’عیسو کی بیویوں کے نام‘‘

بیری حتی کی بیٹی یہود تھی=پیدائش26:34 ایلون حتی کی بیٹی بشا حتی ایلون کی بیٹی عدہ=پیدائش2-36:1 حوی صبون کی نواسی عنہ کی بیٹی اہلیبامہ اسمٰعیل کی بیٹی اور نبایوت کی بہن بشامہ
محولاتی عدری ایل کی بیوی میرب تھی=18:19Sam-1 عدری ایل کی بیوی مِیکل تھی=21:8Sam-2 (دونوں ساؤل کی بیٹیاں تھیں) نیز3:14-15Sam-2
سیالتی ایل نیری کا بیٹا=لوقا3:27 متی1:12 سیالتی ایل یکونیا کا بیٹا=1-تواریخ3:17
زربابل کا بیٹا رلیا=لوقا3:27 زربال کے بیٹے 1-تواریخ3:19-20 سلام۔حنانیاہ۔حسوبہ۔اہل۔برکیاہ۔حسدیہ۔یوسجد زربال کا بیٹا ابیہود=متی1:13

زربال کے بعد دس پشت کا نسب نامہ=1-تواریخ3:19-24

’’زربابل کے بیٹے‘‘

مسلام۔حنانیاہ۔حسوبہ۔اہل۔برکیاہ۔حسدیا۔یوسجد

حنانیاہ کے بیٹے

فلطیاہ۔یسمیاہ۔بنی رفایا۔بنی ارنان۔بنی عیدیاہ۔بنی سکنیاہ

سکنیاہ کا بیٹا

بنی سمعیاہ

حطوش۔اجال۔ برتح۔ نعریاہ۔ سافط (چھ)

نعریاکے بیٹے

الیوعینی۔ حزقیاہ۔ عزریقام

بنی الیوعینی=یودیوا۔الیاسب۔ فلایاہ۔ عقوب یوحنان۔ دلایاہ۔ عنانی

زربابل کے بعد دس پشتوں کانسب نامہ=متی16-1:12

زربابل سے

ابیہود۔الیاقیم۔عازور۔صدوق۔اخیم۔الیہود۔الیعزر۔متان۔یعقوب۔یوسف

(نوٹ)دونوں نسب نامے بالکل مختلف ہیں نیز تواریخ کی کتاب کا مصنف عزرازربابل کا ہم عصر ہے مگر1تواریخ-3:19 10

24پشتوں کاذکرہے جس سے پتہ چلتاہے کہ یہ نام بعد میں شامل کئے ہیں۔

داؤد سے بابل کی اسیری تک پشتوں کا شمار

متی کے مطابق داؤد سے بابل کی اسیری تک کل پشتوں کا شمار13ہے۔

مگر متی نے یورام کے بعد آخزیاہ۔یوآس امصیاہ۔ عزریاہ اور پھر یوسیاہ کے بعد یہوقیم کانام چھوڑدیاہے حالانکہ تمام مشہور بادشاہ تھے اوراسطرح کل18پشتیں بنتی ہیں تین نام چھوڑے ہیں اور چوتھا یہوقیم عزریاہ کو عزریاہ لکھاہے۔

یہوقیم کو چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ یرمیاہ30-36:29میں پیشگوئی موجودہے کہ اسکی نسل سے کوئی بادشاہ نہ ہوگا یکونیا بابل کی اسیری کے دوران پیدانہیں ہواتھا۔بلکہ اسیری کے وقت اسکی عمر18برس تھی= 2-24:8Ki نیز یکونیا یوسیاہ کا پوتاہے بیٹا نہیں یرمیاہ22:24

سیالتی ایل سے زربابل پیداہوا=متی1:12
سیالتی ایل زربابل کا چچاتھا=1-تواریخ3:18
زربابل فدایاکابیٹا تھا=1-تواریخ3:19
سیان کا کوئی بیٹا نہیں تھا=1-تواریخ2:24
سیان کا بیٹا اخلی تھا=1-تواریخ2:3

عزرا اور نحمیاہ کے بیان میں 4 ناموں کا فرق ہے

عزرا 2:2	نحمیاہ 7:7
SERAIAH	AZARIA
REELAIAH	RAAMIAH
MISPAR	MIPERETH
REHUM	NEHUM

پیدائش 36:16 اور پیدائش 16-36:15 کے موازنہ سے پتہ چلتا ہے الیفر کی اولاد میں ‘‘قورح’’ نام پیدائش 36:15-16 زائد ہے حالانکہ پیدائش 36:14 کے مطابق قورح عیسو کا بیٹا ہے اور اسطرح قورح الیفر کا بھائی تھا نہ کہ بیٹا
پیدائش 36:12 کے مطابق TIM-NA عیسو کے بیٹے الیفر کی بیوی ہے مگر 1-تواریخ 1:36 کے مطابق بیٹی یا بیٹا
بت سوع عمی ایل کی بیٹی =1-تواریخ 3:5 بت سوع لعام کی بیٹی =11:3SAM-2
آخز شاہ اسرائیل کے سبب یہودا کو بست کیا =28:19Chr-2 آخز شاہ یہودا =16:1Ki-2 ۔۔۔۔۔میں شاہ یہودا ہی لکھا ہے۔
‘‘بنیں مین کی اولاد’’ پیدائش 46:21 بنی بنیمین = بالع۔ بکر۔ اشبیل۔ جیر۔ نعمان۔ اخی۔ روس۔ مفیم، حقتیم اور ارد 1-تواریخ 7:6 بنی بنیمین = بالع۔ بکر۔ یدیعیل 1-تواریخ 8:1-2 بنی بنیمین = بالع اشبیل۔ اخرج۔ نوحہ۔ رفا

‘‘بالع کو اولاد’’ 1-تواریخ 7:7 بنی بالع=اصبون۔عزی۔عزایل۔یرعوت 1-تواریخ 8:3 بنی بالع=عیری(5) بنی بالع=ادار۔جیرا۔ابیہود۔ابیشوع۔نعمان۔اخوح۔جیری۔سفوفان۔حورام
جبعون کے باپ یعی ایل کی اولاد عبدون۔صور۔قیس۔بعل۔نیر۔ندب۔جدود۔اخیو۔زکریا۔مقلوت 1- تواریخ 9:35-37 1-تواریخ 8:29-31 میں ‘‘نیر’’ کا نام نہیں ہے۔
خدا نے وعدہ توڑ دیا بنی عمون کا کوئی حصہ میراث کے طور پر نہ دونگا=استثناء 2:19 بنی عمون کا آدھا ملک جد کے قبیلہ کو دیا=یشوع 13:24-25
‘‘مصری لوگوں کے سب چوپائے مر گئے تھے’’ مصریوں کے سب چوپائے مر گئے=خروج 9:6 مصریوں کے جانور بچ گئے تھے خروج 9:19،20،21
حرام زادہ دسویں پشت تک خداوند کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا=استثناء 23:2 فارص اسے مصرون 2۔رام 3۔عمیداب 4۔نحسون 5۔بوعز 6۔عوبید 7۔یسی 8۔داؤد 4۔روت 4:18-22 فارص حرام زادہ تھا=پیدائش 38:13-30
داؤد نے ایک ہزار رتھ۔7 ہزار سوار قید کیے=1-تواریخ 18:4 داؤد نے ہدعزر کے 1 ہزار 7 سو سوار پکڑ لئے=2-Sam 8:4

ہدعزر کے شہر طبحت اور کون تھے=1-تواریخ18:8 ہدعزر کے شہر بطاہ اور بیروتی=2-Sam8:8
حمات کا بادشاہ توعو۔بیٹے کا نام ہدورام=1-تواریخ10-18:9 حمات کا بادشاہ توغی۔بیٹے کا نام یورام=2-Sam10-9:9
ایلیا نے کہا سب نبیوں کو قتل کر ڈالا فقط میں ہی اکیلا بچا ہوں=1-سلاطین19:14 ایک نبی نے شاہ اسرائیل کو جا کر کہا=1-سلاطین20:13 اس کا مطلب ہے کہ اور بھی نبی تھے

اختلافات نیا عہد نامہ

مگدن کی سرحد میں آیا=متی15:39

دلمونتہ کے علاقہ میں آیا=مرقس8:10

بہرے اور ہکلے کو لائے=مرقس7:32 گونگے کو لائے=متی9:32
حکمت کاموں سے راست ہوئی=متی11:19 حکمت لڑکوں سے راست ہوئی=لوقا7:35
شریعت منسوخ کرنے نہیں آیا= جو کوئی چھوٹے سے چھوٹے حکم توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا۔وہ بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔جو عمل کریگا اور عمل کرنے کی تعلیم دیگا وہ راستباز ہوگا=متی20-5:17 ''شریعت منسوخ'' اس نے جسم کے ذریعہ شریعت کے حکموں اور ضابطوں کو موقوف کر دیا=افیسون2:15
بدلہ نہ لینے کی تعلیم=متی40-5:39 ناقابل عمل تلوار چلانے آیا ہوں=متی10:34 کپڑے بیچ کر تلواریں خریدنے کی تعلیم=لوقا38-22:36(دو تلواریں)
سب کچھ اسکے پاؤں تلے کر دیا=افیسون1:22 ہم سب چیزیں اسکے تابع نہیں دیکھتے=عبرانیوں2:8

پولوس کے ساتھیوں نے آواز سنی مگر کسی کو دیکھا نہیں=اعمال9:3-9 پولوس کے ساتھیوں نے نور دیکھا مگر آواز نہ سنی=اعمال22:9
عورتوں نے کسی سے کچھ نہ کہا=مرقس16:8 عورتوں نے گیرہ کو سب باتیں بتائیں=لوقا24:9
پطرس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے=متی16:16 پطرس نے کہا تو مسیح ہے=مرقس8:9
سردار نے کہا بیٹی ابھی وہی ہے=متی9:18-19 سردار نے کہا مرنے کو=لوقا8:42،مرقس5:23 (نوٹ) یہاں یہوواوالوں نے ترجمہ میں تبدیلی کردی ہے۔
یہودااسکریوتی نے اپنے آپ کو پھانسی دی=متی27:5 یہودااسکریوتی سر کے بل گرا=اعمال1:18

ایک آدمی قبروں سے نکلا=لوقا8:27،مرقس5:1-4 دوآدمی قبروں سے نکلے=متی8:28
راستہ کے لیے جھولی نہ دو دو کرتے نہ جونیاں نہ لاٹھی راستہ کے لیے لاٹھی کے سوا کچھ نہ لو۔متی10:10۔۔۔۔=مرقس6:7-9
اسکا نام عمانوائیل رکھیں گے=یسعیاہ7:14،متی1:23اسکا نام یسوع رکھنا=متی1:21 بیٹے کا نام یسوع رکھا=متی1:25
میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہونگا=مرقس14:7،یوحنا17:11 دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں=متی28:20
انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا=متی21:19 صبح جاکر سیکھا تو انجیر کا درخت سوکھا ہوا تھا=مرقس11:20
۔۔۔۔۔سے دودن کے لیے بیت عنیاہ میں تھا=مرقس14:1-3

۔۔۔۔۔سے چھ روز پہلے بیت عنیاہ میں آیا=یوحنا12:1,11:55-57
یوحنا خود نور نہ تھا=یوحنا1:8 یوحنا جلتا ہوا چراغ تھا تم کو کچھ عرصہ تک اسکی روشنی میں خوش رہنا منظور تھا=یوحنا5:35
شریعت پر عمل کرنے والے راستباز ٹھہرائے جائیں گے=رومیوں2:13 شریعت کے اعمال سے کوئی راستباز نہیں ٹھہرایا جائیگا=رومیوں3:20
انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے بسبب راستباز ٹھہرایا جائیگا=رومیوں3:28 انسان صرف ایمان سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرائے جائینگے یعقوب2:25
مسیح تیسرے آسمان پر اٹھایا گیا=2-کرنتھیون12:2-5 مسیح سب آسمانوں سے اوپر چڑھ گیا=امیوں4:9-10
سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی۔ایک ہی روحانی پانی پیا وہ اس چٹان سے پیتے تھے جو ان کے ساتھ چلتی تھی اور وہ چٹان مسیح تھی=1-کرنتھیون10:1-4 موسیٰ نے وہ روٹی نہ دی۔ تمہارے باپ دادا نے من کھایا اور مر گئے یہ (مسیح) وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی کھائے اور نہ مرے یوحنا،6:32 6:49-50 میرے سوا کوئی خدا نہیں کوئی چٹان نہیں میں تو کوئی نہیں جانتا یسعیاہ44:8
مسیح ہمارے لیے لعنتی بنا=گلیتون3:13 بحوالہ استثناء21:22-23 خدا کی روح کی ہدائیت سے کوئی یسوع کو ملعون نہیں کر سکتا=1-کرنتھیون12:3
عورت نے عطر پاؤں پر ڈالا=لوقا7:37-46 عورت نے عطر سر پر ڈالا=مرقس14:3
’’لایعنی اور بے ربط بیانات‘‘ لیکن خداوند نے تیری بات یا حکم صادر فرمایا ہے کی تیری نسل باقی نہ رہے=ناحوم1:14

(کس کی نسل کوئی علم نہیں ہوتا)
ادوم اور شعیر دونوں اسکے قبضہ میں ہونگے ادوم اور شعیر ایک ہی ہیں گنتی18-12:16

عیسو اپنی بھیڑ بکریاں لے کر یعقوب کے پاس سے دور چلا گیا۔ کیونکہ بھیڑ بکریوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک جگہ اکھٹے نہیں رہ سکتے تھے (بھیڑ بکریوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک جگہ اکھٹے رہے ہی نہیں) پیدائش8-36:6
تضادات ابلیس کو موت پر قدرت حاصل تھی=عبرانیوں2:14 حاکم تو ایک ہی ہے جو بچانے اور ہلاک کرنے پر قادر ہے=یعقوب4:12
یسوع دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے=مکاشفہ1:5 یسوع نے کہا میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں=یوحنا18:36
کوئی چیز بذات حرام نہیں جو اسکو حرام سمجتا ہے اسکے لئے حرام ہے=رومیوں14:14 پرانا عہد نامہ میں متعدد چیزیں حرام ہیں اسی طرح نئے عہد نامہ میں بھی بتوں کی قربانی۔خون۔ مردار و غیر حرام ہیں احبار-11:1-23،اعمال15:29
حکمت سب سے افضل ہے=امثال4:7 محبت سب سے افضل ہے=1-کرنتھیون13:13
خدا نہ جھوٹ بولتا ہے اور نہ پچھتاتا ہے=15:2Sam-1, گنتی23:19 خدا نے جھوٹ بولنے والی روح بتوں میں بھیجی1-سلاطین23-22:21 خدا پچھتایا۔افسوس کیا۔ملول ہوا 15:11Sam-1،پیدائش6:6،6:7، خروج32:14 قضاۃ2:18، 24:16 Sam-2 1-تواریخ21:15، یرمیاہ15:16،26:19، گنتی23:19، قضاۃ21:6،21:15 15:32Sam-2،عاموس7:6،یونا4:10،3:10
آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے=عبرانیوں9:27

(نوٹ)جو مردے زندہ ہوئے تھے کیاان کی عدالت ہو گئی تھی 2-Ki4:35، حزقیل 10:37-22:17, 1-Ki22:17,2 اعمال 42-9:40,12-20:9 وغیرہ
خداوند نے بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے بعد سوائے داؤد کے کسی کو نہیں چنا وہ قوم اسرائیل کا حاکم ہو=2-تواریخ 6-6:5 داؤد سے پہلے ساؤل کو بھی خداوند نے خود چنا کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو 1-Sam 24-10:17
1-تواریخ 3:15 JOHANA میں لکھا ہے کہ یوسیاہ کا پلوٹھا یوحنا تھا مگر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہوا-(Comp2-Ki23:31 ہے LXX Joah)
صدقیاہ یوسیاہ کا بیٹا تھا=1-تواریخ 3:15 صدقیاہ یہوقیم کا بیٹا تھا=1-تواریخ 3:16 صدقیاہ یکونیا یہویاکین کا بھائی تھا=2-تواریخ 10-36:9 صدقیاہ (متنیاہ) یہوکین کے باپ کا بھائی تھا یعنی یکونیا کا چچا تھا=2-Ki24:17,24:1 (یادرہے کہ یہوقیم یوسیاہ کا بیٹا تھا=1-تواریخ 15-3:14

خود عیسائیوں کا اعتراف کہ بائبل میں زیادتی یا کمی یا غلطی ہے

بحوالہ When Critics Ask(1996)

=پیدائش 4:26 کے غیر واضح ہونے کا اقرار (p38)

=انسانیت صرف 69000 ہزار سال پرانی ہے (p38)

=خدا کے بیٹے سے مراد (سیت کی نیک اولاد)

=انسان خدا کے بیٹے۔یسعیاہ 43:6(p40)

=دوسری دفعہ دنیا آگ کے ذریعہ مٹائی جائیگی (p43)2-پطرس 3:10

=ابراہیم پر جھوٹ کو بولنے کاالزام پیدائش16-17:15(p49)

=اسمٰعیل بے ایمانی کی حالت میں پیدا ہوُااس لیے وہ موعود وارث نہیں تھا=(p52)

=اکلوتے بیٹے سے مراد پیارا بیٹا(p52)

=یعقوب کا دھوکہ سے برکت حاصل کرنا پیدائش 29:1(p55)

=یعقوب کے مصر آنے کی پیشگوئی جھوٹی نکلی پیدائش 46:4

سلع کے متی جس کے لیے ہے(p61)

=خروج 4:24 جسکا ختنہ نہ ہو وہ مارا جائے (یہ حکم نہیں ہے)(p67)

=خروج 6:3 نام یہواہ بعد میں لکھے جانے کا اعتراف(p69)

=(وزنی اعتراض) اگر تمام لوگ 20 سال سے اوپر کی عمر کے صحرا میں مر گئے تھے تو ان کی قبریں کیوں نہیں ملیں= گنتی 14:29

=گناہ کے کفارہ کی قربانی گنتی 15:24، احبار 4:14، تضاد (یعنی صفحہ 85)

بائیبل مفروضہ زمانہ کے بعد کی تحریر

1) کنعانی اور فرزی اسوقت ملک میں رہتے تھے= پیدائش 13:7

2) ابرھیم نے۔۔داں تک۔۔تعاقب کیا= پیدائش 14:14

3) دان کے نام پر شم کا نام دان رکھا= یشوع 19:47

4 شہر کا نام دان رکھا۔ اسشہر کا نام لیس تھا= قضاۃ 18:29

5) یونین بن جیر سوم بن موسیٰ اور اسکے بیٹے اس ملک کی اسیری تک بنی دان۔کے کاہن رہے= قضاۃ 18:30

6) راخل کی قبر کا یہ ستون (افرات بیت لحم میں) آج تک موجود ہے= پیدائش 35:20

7) وہ شہر آج تک بیر سبع کہلاتا ہے= پیدائش 36:33

8) جیسے اسرائیل نے اپنی میراث کے ملک میں کیا جسے خداوند نے ان کو دیا= استثناء

9) یہ وہ بادشاہ ہیں جو ملک ادوم میں پیشتر اسکے کہ اسرائیل پر کوئی بادشاہ ہو مسلط ہوئے= پیدائش 36:31

10) حضرت موسیٰ کی وفات کا ذکر= استثناء 10-34:7

11)یشوع کی وفات کا ذکر=یشوع 31-24:29

12)ان دنوں اسرائیل پر کوئی بادشاہ نہیں تھا=قضاۃ 17:16،19:1،21:15

پہلا بادشاہ=ساول ہوا=1-سیموئیل 18:5،11:12

13)موسیٰ روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا=گنتی 12:3

14)بنی اسرائیل جب تک آباد ملک میں نہ آئے چالیس سال تک من کھاتے رہے=خروج 16:35، گنتی 32:13

=موسیٰ نے لکھا Dan9:11,PS103:7,Neh1:7,Ezra3:2,2Kig14:6,

1-Ki2:3,Jud3:4,Mark7:10,...4:7-10,1Cor9:9,

=استثناء 12-2:10 بعد میں اضافہ کا اقرار (p115)

=استثناء 21-5:6 خروج 17-20:2 تبدیلی کا اقرار (p118)

=عبرانیوں 11:21، پیدائش 47:31 LXX تبدیلی کا اقرار (p522)

=2-King6:24,2-2-تواریخ 36:6 غلطی کا اقرار (p199)

=متی 11:12، رومیوں 14:17 مشکل کا اعتراف (p140)

=استثناء 21-5:6 خروج 17-20:2 میں تبدیلی کا اعتراف (p118)

=1-اسموئیل 6:19،50،000 آبادی کے بیان میں غلطی کا اعتراف (p156)

=1-اسموئیل 13:1 MT کے Text میں غلطی کا اعتراف (p159)

=1-اسموئیل 13:5 میں 30،000 غلطی کا اعتراف (p160)

=1-اسموئیل 17:50، 2-اسموئیل 21:19 تضاد کے سلسلہ میں غلطی کا اعتراف (p163)

=2-Sam4:8، 1-تواریخ 18:4 تضاد میں غلطی کا اعتراف (p171)

=2-Sam 13:24، 1-تواریخ 21:12 میں غلطی کا اعتراف (176)

=1-King 26:4، 2-توارریخ 9:25 تضاد میں غلطی کا اعتراف (181)

=1-King 15:5 میں MS میں کم یا زائد عبارت کا اعتراف (185)

=2-King 18:13 تاریخی غلطی کا اعتراف سنحرب نے حزقیاہ کے 14 برس یہوداہ کے علاقہ کو فتح کیا تاریخی غلطی ہے (197)

=2-King 24:8 میں غلطی کا اعتراف، 2-تواریخ 36:9 (199)

=2-تواریخ 16:1 کے بیان میں غلطی کااعتراف(209)

=عزرا 2:1، نحمیاہ 7 میں غلطی کااعتراف(214)

=ایوب 1:5 میں لعنت کے لفظ کو برکت میں بدلنے کااعتراف(124)

=زبور 3:1 میں زائد عبارت اعتراف(234)

=زبور 30 کے آغاز کے الفاظ زائد ہونے کااقرار(236)

=زبور 34 کے ٹائیٹل میں نام غلط ہونے کااعتراف(237)

=امثال 25:1۔ سلیمان نے تین ہزار امثال لکھیں 1-King 4:32

مگر امثال کی کتاب میں بہت کم امثال ہیں(250)

شریعت سے متعلق حضرت مسیح اور پولوس کا نظریہ

شریعت۔احکام نیا عہد نامہ

شریعت منسوخ نہیں ہوئی=

میں شریعت منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیاہوں آسمان اور زمین کے ٹل جانے تک شریعت منسوخ نہیں ہو گی۔
جو کوئی ان حکموں میں سے کسی کو توڑے اور یہی آدمیوں کو سکھائے وہ بادشاہی میں داخل نہ ہو گا مگر عمل کرنے والا داخل ہو گا=متی 5:17-19

شریعت۔احکام نیا عہد نامہ

شریعت منسوخ نہیں ہوئی۔

میں شریعت منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیاہوں۔آسمان اور زمین کے ٹل جانے تک شریعت منسوخ نہیں ہو گی۔جو کوئی ان حکموں میں سے کسی کو توڑے اور یہی اور یہی ادمیوں کو سکھائے وہ بادشاہی میں داخل نہ ہو گا مگر عمل کرنے والا داخل ہو گا۔متی 5:17-19

1)اگر زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہو تو حکموں پر عمل کرو=متی 19:17

2)کامل ہونے کے لئے سارا مال غریبوں کو دینا=لوقا 18:20-22

3)اے ریاکار فقیہو۔ تم شریعت کی زیادہ بھاری باتوں ایمان انصاف اور رحم کو چھوڑ دیتے ہو۔ لازم تھا یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے=متی 23:23-24

4)اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو=یوحنا 14:15-21-23

حکموں پر عمل کرو گے تو تم میری محبت میں قائم رہو گے=یوحنا 15:10

5)جس نے ساری باتوں پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصور وار ٹھہرا=یعقوب 2:10

ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے=یعقوب 4:17 اسی طرح یعقوب باب 4 ایمان اور عمل کی بحث

6)خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں=خدا کے حکم سخت نہیں

=1-یوحنا 5:9۔استثناء 30:11 یا یوحنا 14:15

7)شریعت منسوخ نہیں جو احکام شریعت کے خلاف عمل کرتا ہے یا اسکی تعلیم دیتا ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا=متی 5:17-20

8)سبت کا حکم منسوخ نہیں کیا تھا=لوقا 24:1

شریعت کی مخالفت نیا عہد نامہ پولوس

1)شریعت کے بغیر راستبازی=رومیوں 3:21

2)شریعت اعمال کے بغیر راستبازی ایمان کے سبب=رومیوں 3:27-28

3)شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راستباز=گلیتون 2:17

4)راستبازی اگر شریعت کے وسیلہ سے ملی تو مسیح کا مرنا عبث ہوتا=گلیتون 2:21

5)شریعت پر تکیہ کرنے والے لعنت کے ماتحت ہیں=گلیتون 3:10

6)جو یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔۔کیونکہ یسوع نے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔رومیوں 8:1-2

7)جس کا حکم منشاء زندگی تھا وہی میرے حق میں موت کا باعث بن گیا=رومیوں 7:10

8)تم شریعت کے ماتحت نہیں=رومیوں 4:15

9)مسیح میں مرنے کی وجہ سے شریعت سے آزاد۔رمیوں 7:3-4

10) مسیح جو تمہارے لئے لعنتی بنا اس نے ہمیں شریعت کی لعنت سے چھڑایا=گلیتون 3:12

11)اس نے۔۔۔دشمنی یعنی شریعت۔۔۔موقوف کر دی شریعت کے حکم ضابطوں کے طور تھے=افسیون 2:15

1)شریعت کے۔۔۔۔۔سے خدا کی بے عزتی=رومیوں2:23

2)حضرت عیسیٰ فرمادیں گے=اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ پس جو کوئی میری باتیں سنتاہے اوران پر عمل کرتاہے۔ جو کوئی عمل نہیں کرتا وہ بیوقوف کی مانند ہے=متی27-7:22

3)اگر بعض بے وفا نکلے تو کیاان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کا باطل کرسکتی ہے ہر گز نہیں بلکہ خداہی سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا کیا خدا بے انصاف ہے۔

4)موسیٰ کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہوسکتے تھے ان سب سے ایمان لانے سے بری ہوئے=اعمال13:39

5)شاگردوں کی گردن پر ایسا جوا رکھ کر جسکو نہ تمہارے نہ باپ دادا اٹھا سکتے تھے نہ تم خدا کو کیوں آزمائے ہو(یعنی شریعت کے احکام انسانی طاقت سے باہر ہیں)

اعمال11-15:10

6)تم دنوں۔ مہینوں۔ مقرر وقتوں کو مانتے ہو۔ یہ نکمی باتیں ہیں۔ گلیتون11-4:9

(مگران کے ماننے کا حکم خدانے دیا تھا)

7)شریعت غضب پیدا کرتی ہے=رومیوں4:15

8)گناہ کی رغبتیں شریعت سے پیدا ہوئی ہیں=رومیوں

9)گناہ سے آزاد۔ تم شریعت کے ماتحت۔ رومیوں6:14

1)جھوٹے گواہ کھڑے کئے کہ یہ شخص شریعت کے خلاف بولنے سے باز نہیں آتا=اعمال6:13

2)فخر کہاں رہا کیا اعمال کی شریعت سے نہیں بلکہ ایمان کی شریعت سے=رومیوں3:27

3)رومیوں8-10:6 میں پولوس شریعت مشکل نہیں اور نہ دور ہے تیر منہ میں ہے اور تیرے دل(یعنی فطرت) میں ہے استثناء14-30:13 سے بالکل الٹ استدلال کرتاہے

4)انسانی احکام اور تعلیم کے موافق۔۔اسے نہ چھونا اسے نہ چکھنا۔اسے ہاتھ نہ لگانا=۔۔۔21-2:20

5)خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے کلام اور دعا سے پاک ہو جاتی ہے 4:3-5Tim-1

6)شریعت جو کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں تاکہ ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے۔ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہیں ٹھہر سکتا=رومیوں20-3:19

7)شریعت راستبازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی=1-Tim1:9

8)پہلا عہد بے نقص نہیں تھا=عبرانیوں8:7،8:13پرانا عہد پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب منسوخ

9)شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا=عبرانیوں7:18

10)موسیٰ کی شریعت کی پیروی کرنے دینے والے کہتے=فلپیون3:2

احکام۔قوانین شریعت۔پرانا عہد نامہ

شریعت پر عمل کرنا=

1)انسان قائم رہتا ہے=استثناء28:9،بھلائی ہے۔زندگی ہے

2)باعث برکت ہے=استثناء4:40,30:15-16

3)زندگی کی درازی۔برکت=استثناء5:29-31,5:33,30:19-20

4)خداوند کے شکر کے طور پر عمل کرو=خروج13:9

5)شریعت پر عمل نہ کرنا خدا کے کلام کا حقارت ہے=گنتی15:31

6)شریعت پر عمل نہ کرنا باعث موت ہے=استثناء30:15-16

7)شریعت پر عمل کرنے سے مصیبتیں اور بیماریاں آتی ہیں=استثناء28:59-62

8)شریعت بے سود نہیں بلکہ زندگی ہے=استثناء32:46-47

9)شریعت کا مقصد اسپر عمل کرنا ہے=استثناء4:14

10)شریعت کا مقصد تربیت کرنا=استثناء4:36

11)شریعت کو چھوڑ کر انسان نکما ہو جاتا ہے=2-Ki17:15

12)شریعت پر عمل کرنے سے

زندگی ملتی ہے=احبار18:3,19:37,20:8,20:22,25:18

13)زندگی ملے گی=18:19-20،20:13،20:11،استثناء30:16

14)باعث برکت=استثناء11:26-28

15)تیرا اور تیری اولاد کا بھلا=عمر دراز=استثناء4:40،5:29،6:2

16)ہزار پشت تک خدا رحم کرتا ہے=استثناء7:9-11

17)شریعت پر عمل نہ کرنے سے ہلاکت=استثناء8:19-20

18)شریعت پر عمل نہ کرنے سے لعنت=استثناء11:26-28

"شریعت و قوانین واحکام"

20)برحق ہے، جان کو بحال کرتی ہے=زبور19:17

21)راست احکام۔سچے قوانین۔اچھے آئین اور فرمان۔استثناء4:9نحمیاہ9:29

23)شریعت پر عمل کرنے سے عمل کرنے والے غرور پیدا نہیں ہوتا۔بلکہ محبت پیدا ہوتی ہے=استثناء17:19-20

24)سرفرازی ملتی ہے=استثناء28:13،28:1

25)مبارک ہیں=زبور119:1

26)اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے=زبور1:2-3

"انبیاء اور شریعت"

1)خداوند سب نبیوں اور غیب نبیوں کی معرفت۔۔۔آگاہ کرتا رہا کہ تم بری راہوں سے باز آؤ اور ساری شریعت کے مطابق جسکا حکم تمہارے پاس بھیجا ہے میرے احکام اور آئین مانو2-سلاطین17:13-14

2)لاوی کے ساتھ عید زندگی اور سلامتی کا تھا۔خود بھی راستی پر چلتا رہا اور بہتوں کو بدی کی راہ سے واپس لایا۔لاوی کا کام شریعت کے مسائل سنانا کیونکہ وہ رب الافواح کا۔۔۔ہے=ملاکی2:5-8

3)نبیوں کے ذریعہ شریعت عمل کرنے کے لئے دی=9:10-11

4)اپنے نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا بروقت یہ کہتے ہوئے بھیجا کی تم اپنی بر ی روش سے باز آؤ اور اپنے اعمال کو درست کرو=یرمیاہ35:14-15

5)انہوں نے تیری شریعت کو پیٹھ پیچھے پھینکا اور تیرے نبیوں کو جو ان کے خلاف گواہی دیتے تھے تاکہ ان کو تیری طرف پھیر لائیں قتل کیا=نحمیاہ9:26

6)خدا اپنی روح سے اپنے نبیوں کی معرفت ان کے خلاف گواہی دیتا رہا تو بھی انہوں نے کان نہ لگایا=نحمیاہ9:30

8)تم نے کہا۔۔رب الافواج کے احکام پر عمل کرنا اور اسکے حضور قائم کرنا لاحاصل ہے=ملاکی3:14

صادق اور شریر میں امتیاز(اعمال)=ملاکی3:17

9)تم میرے سے بندہ موسیٰ کی شریعت یعنی فرائض احکام یادرکھو=ملاکی

"مقصد حیات"

خداوند تیرا خدا تجھ سے اسکے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے، اسکی سب راہوں پر چلیں اس سے محبت رکھے اپنے سارے دل ساری جان سے خداوند کی بندگی کرے اور خداوند کے احکام اور آئین پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو

استثناء10:12-13،11:13،11:22

2)خدا سے ڈر اسکے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے کیونکہ خدا ہر فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو خواہ بری عدالت لائے گا۔واعظ12:13-14

3)انسانوں کو پیدا کیا تاکہ خدا کو ڈھونڈیں اعمال17:24-27

"شریعت کا مقصد (پولوس)"

1)شریعت مسیح تک پہنچانے کے لیے ہماری استاد تھی

ایمان آچکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے=گلیتون3:23-25

2) مسیح شریعت کا انجام ہے=رومیوں10:4

"مختلف جرائم کی سزائیں"

لونڈی اگر زانی ہو تو جان سے ماری نہ جائے=احبار19:20

زانیہ اور زانی جان سے مارے جائیں=احبار20:10-11

=بیوی اور ساس کو اکھٹا رکھنے والے=استثناء22:22-24

=کو جلادیا جائے=احبار20:12-14

=جانور سے محبت کرنے والا مارا جائے=احبار20:15-16

=بہن کا بدن دیکھنے والا قتل کیا جائے=

=حائضہ عورت سے جماع کرنے والا کا اخراج احبار2:18

ممنوع رشتوں سے شادی کرنے والے لاولد مرینگے=اصار20:20-21

=کاہن کی بیٹی زنا کرتے تو آگ میں جلائی جائے=اصار21:9

=جادو گراور آسیب زدہ کا سنگسار کیا جائے=اصار20:7

=ماں باپ پر لعنت کرنے والا قتل کیا جائے=اصار2:9، خروج21:17

=بیل اگر مار دے تو جان سے مارا جائے=خروج21:28

کنواری سے زنا کرنے والا اس سے شادی کرائے یا نقد دے=خروج22:16-17

=مشرک جان سے مارا جائے=احبار=،17:2-722:20

=خدا کے نام پر کفر بکنے والا سنگسار کیا جائے=احبار24:16

اگر عورت کسی مرد کی شرم گاہ پکڑے تو اسکے ہاتھ کاٹے جائیں=استثناء25:11

وہ رشتے جن سے شادی نہیں ہو سکتی

=ماں اور باپ کی بیوی سے=احبار18:17-8

=بہن سے باپ کی بیٹی ہو یا ماں کی=

=پھوپھی۔خالہ۔بھابی۔چچی۔تائی۔بہو۔خالو۔مامی

=بیٹی اور ماں کو اکھٹے۔دو بہن اکھٹی رکھنا=احبار18:6-23

قرآن کریم میں احکامات

النساء 4:23-24 ،البقرہ2:223

اپنی ہی تعلیم کے خلاف مسیح سے منسوب اقوال

1)جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کرے گا عدالت کی سزا کے لائق اور جو اسکو احمق کرے گا وہ آتش جہنم کی سزا کے لائق=متی5:22

2)جو اپنے بھائی سے غصے ہو گا وہ عدالت کی سزا کے لائق=متی5:22

3)اپنے دشمن سے محبت کرو=متی5:44

1)پاک چیزیں کتوں کو نہ دو موتی سؤروں کے آگے نہ ڈالو=متی7:6

2)شہروں کو ملامت کرنا=متی11:20

3)سانپ کے بچو=متی12:34؛برے اور زنا کا لوگ=متی12:39،16:6

4)غیر اقوام کتے=7:25-30مرقس،15:26متی

5)پطرس شیطان=متی16:23

6)بے اعتقاد۔کجرو نسل=متی17:17،درخت کو بددعا=متی21:18-19

7)اے ریاکار فقیہو اور فریسوں=متی23:15

8)اے احمقو اور اندھو=متی5:22،متی23:17

9)اندھے فریسی=متی23:36

10)سانپو۔افعی کے بچو=متی23:33

11)سفیدی بھری قبرو۔ریاکار۔نجاست سے بھرے ہوئے=متی23:27-29

چور اور ڈاکو۔=یوحنا10:7

قرآن اور بائیبل میں واقعاتی اختلافات

حضرت آدم

1)قرآن

گناہ ارادتاً نہیں کیا تھا20:116طٰہٰ

بائیبل

تمام دنیا میں گناہ پھیلانے کا ذمہ دار تھا=رومیوں5:12

قرآن خدا کے برگزیدہ انسان تھے=3:34آل عمران

حضرت آدم نے دعا کی گناہ کی معافی مانگی۔اللہ تعالی نے گناہ معاف کر دیا=2:38البقرہ،7:24اعراف،20:122

بائیبل

نہ معافی مانگی نہ گناہ معاف ہوًابلکہ اسکو سزا دی گئی اور اس کی وجہ سے اس کی نسل بھی گناہ گار=پیدائش3:17

''حوّا''

قرآن

عورت اور مرد ایک ہی جنس سے پیدا ہوئے=النساء4:3

بائیبل

حوا آدم کی پسلی سے بنائی گئی=پیدائش2:21

"نوح"

قرآن

طوفان صرف قوم نوح کی طرف آیا تھا=العکنبوت 29:15

اس کا ذکر ہم نے ذکر باقی رکھا=37:79

بائیبل

طوفان نوح تمام دنیا میں آیا تھا=پیدائش 5:12-13

"کشتی کہاں ٹھہری"

قرآن=جودی کے پہاڑ پر=

بائیبل ارارط کے پہاڑ پر=پیدائش 8:4

قرآن

بیوی اور ایک بیٹا طوفان میں ڈوب گئے=ھود 11:43-44,66:11

بائیبل

بیوی اور تمام بیٹے بچائے گئے=پیدائش 8:15،6:1،7:14 مگر کنعان پر لعنت کیوں کی گئی=پیدائش 9:25 سیر جوبلی کے۔۔۔

میں کنعان کو بیٹا کہا گیا ہے

کتنے جانور سوار ہوئے

قرآن=

اختلاف/بائیبل=پاک جانور 7،7 اور ناپاک دو دو Gen8:1-2 مگر دو دو بھی لکھا ہے پیدائش 7:19

"حضرت ابراھیم"

قرآن

1) صیح حالات قرآن میں اور بڑے راستباز تھے=مریم 19:41

بائیبل=جھوٹ بولا=12:11-13

2) قرآن=ہجرت والد کی زندگی میں کی=مریم 19:41-49

بائیبل=ہجرت کنعان کی طرف باپ کی وفات کے بعد کی=پیدائش،11:32-12:1

اختلاف=باپ کی عمر پیدائش کے وقت 70 سال=11:26

باپ کی وفات کی عمر205=11:32

ابراھیم کی ہجرت وقت عمر=12:4=75سال

3)قرآن=اسمعیل کی قربانی=الصّٰفّٰت 37:103-104

بائیبل=اسحٰق کی قربانی=پیدائش22:2

مددگار حوالے=سفر کا آغاز بیر سبع=21:31-34،واپسی بیر لع22:19،عمر22:12

4)قرآن=اپنے بیٹوں کو وصیت کی=البقرہ2:133

بائیبل=وصیت کرنے کی پیشگوئی موجود ہے=پیدائش18:19

مگر وصیت کرنے کا کہیں ذکر نہیں ہے

جو بلی میں مکمل وصیت درج ہے

5)قرآن=مہمان فرشتوں نے کھانا کھانے سے انکار کیا=ہود11:70-71

بائیبل=مہمان فرشتوں نے کھانا کھایا=پیدائش18:8

فرشتے کھانا نہیں کھاتے=قاضیوں13:15-16

6)قرآن=جب حضرت اسحق کی خوشخبری دی گئی تو حضرت۔۔۔گھبرا گئیں مگر خدا نے تسلی دی=ھود11:71-72

بائیبل=حضرت سائرہ نے یقین نہ کیا۔ہنسیں جھوٹ بولا پیدائش18:12-15

7)قرآن=حضرت ابراھیم نے30۔40سال کی عمر میں کنعان کی طرف ہجرت

کی لفظ=متی ایک نوجوان کو بتوں کی کمزورریاں کرتے سناالانبیاء21:62

باپ کے کہنے پر ہجرت=مریم19:47-49

بائیبل=کنعان کی طرف ہجرت75سال کی عمر میں کی=پیدائش12:1-2

"حضرت لوط"

قرآن=حضرت لوط اوران کے اہل قوم کے قبیح اعمال سے پاک

تھے=اشعرا26:169-171

بائبیل=بیٹوں نے باپ کو شراب پلا کر اس کے ساتھ زنا کیا=پیدائش 38-19:31

2) بائبیل=بیوی نمک میں تبدیل ہو گئی=پیدائش 19:26

قرآن=لوط کی بیوی کو نجات نہیں ملی مگر نمک میں تبدیل ہونے کا لایعنی بیان نہیں=الصف 137-37:136

''حضرت یعقوب''

قرآن=یعقوب نے اپنے بیٹوں کو انصاف اور خدا کی راہ پر قائم رہنے کی وصیت کی=البقرہ 2:133

بائبیل=یعقوب دھوکہ باز۔ جھوٹ بولا۔ بھائی کا حق غصب
کر لیا=پیدائش 36-27:19

(نوٹ) کنعان کے ملنے کا وعدہ انصاف اور خدا کی راہ پر قائم رہنے کے ساتھ مشروط تھا=پیدائش 18:19

اگر یعقوب دھوکہ باز۔ جھوٹا اور غاصب تھا تو یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکتا تھا یعقوب نبی تھا اور خدا کا۔۔۔ تھا=زبور 105:15

''حضرت یوسف''

قرآن=خواب میں پہلے ستاروں اور پھر سورج چاند کا ذکر ہے=یوسف 12:5

بائبیل=خواب میں پہلے سورج چاند اور پھر 11 ستاروں کا ذکر ہے پیدائش 10-37:9

(نوٹ) مگر بعد کے واقعات بتا رہے ہیں کہ خواب قرآن کریم کی بیان کردہ ترتیب سے پورا ہوا پہلے بھائی مصر گئے اور پھر والدین

2) قرآن=حضرت یعقوب نے خواب سن کر کہا کہ خدا تجھے برگزیدہ کریگا اور مجھے باتوں کی حقیقت بیان کرنے کا علم بخشے
گا=یوسف 12:7

بائبیل=حضرت یعقوب نے ڈانٹا اور کہا کہ تو نے یہ کیا خواب دیکھا ہے کیا میں اور تیری ماں اور بھائی تجھے سجدہ
کرینگے=پیدائش 37:10 (قرآن کے مطابق ہوا)

''حضرت یوسف''

3) قرآن=بھائیوں نے مشورہ کر کے حضرت یوسف کو قتل کرنے یا کسی دوسرے ملک میں پہنچنے کا منصوبہ بنایا=10-12:9

بائبیل=بھائیوں نے اچانک قتل کرنے کا پروگرام بنایا=پیدائش 20-37:18

4) قرآن=بھائیوں نے والد کو کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دے مگر حضرت یعقوب خواب کی بنا پر فکر مند ہوئے=-12:13
14

بائبیل=حضرت یعقوب نے خود حضرت یوسف کو بھائیوں کے پاس سکم میں بھیجا=پیدائش 37:13

اب جس باپ کو علم ہو کہ دسرے بھائی بغض رکھتے ہیں اور ان کے ارادے یوسف کے متعلق نیک نہیں وہ کیسے اپنے پیارے بیٹے کو خود ہی خطرہ میں ڈال سکتا ہے=پیدائش37:8، 37:11، 37:4

5)قرآن=حضرت یعقوب نے یوسف کے مرنے کا یقین نہ کیا بلکہ اللہ کی مدد کے خواہش مند ہوئے=12:19

بائیبل=حضرت یعقوب نے یوسف کے مرنے کا یقین کر لیا اور ماتم کرتا رہا=پیدائش37:33-34

جس نے خواب سنے ہوں ان کی تعبیر کی ہوا اور خواب یادرکھی ہو وہ کیسے اس کی تعبیر کے خلاف یقین کر سکتا ہے طالمود سے بھی قرآنی بیان کی تائید ہوئی ہے۔

6)قرآن=حضرت یوسف کو قافلہ والوں نے خود کنوے سے نکالا=12:20

بائیبل=بھائیوں کے خود یوسف کو نکال کر قافلہ والوں کے ہاتھ بیچ دیا تھا=پیدائش37:25-29

مگر طالمود قرآنی بیان کی تصدیق کرتی ہے(طالمود انسائیکلوپیڈیاH-Poleino Page 74-75 Rabah)

7)قرآن=خواب کی تعبیر کے مطابق حضرت یوسف کی والدہ بھی حضرت یعقوب کے ساتھ مصر گئیں اور یوسف نے کہا کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے=یوسف12:101-102

بائیبل=حضرت یوسف کی والدہ خواب سے قبل حضرت بنیامین کی پیدائش کے وقت فوت ہو گئی تھیں اسلئے مصر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا=پیدائش35:19

حضرت یعقوب کی بیوی لیاہ بھی فوت ہو گئی تھیں=پیدائش49:31

اسی طرح پیدائش باب46میں مصر جانے والوں کی مکمل فہرست دی گئی ہے وہاں بھی کسی بیوی کا نام نہیں ہے

"(یعنی قرآن کے مطابق خواب لفظ بلفظ پوری ہوئی مگر بائیبل کے مطابق پوری نہیں ہوئی")

"حضرت موسیٰؑ"

1)قرآن=والدہ نے موسیٰ کو تابوت میں ڈال کر دریا میں ڈالاے تھا=القصص28:8طٰہٰ20:39-40

بائیبل=تابوت میں ڈالکر دریا کے کنارے رکھا=خروج2:3

تضاد۔میں نے اسے پانی سے نکالا ہے۔خروج2:10

2)قرآن=حضرت موسیٰؑ نے مصری کو ارادتاً قتل نہیں کیا تھا=28:16

بائبل=ادھر ادھر دیکھ کر قتل کیا بعد میں ریت میں چھپا دیا ارادتاً مارا=خروج 2:11-12

3)قرآن=مدین کے کہن کی دو بیٹیاں چشمہ پر جانوروں کو پانی پلانے آئیں=القصص 28:24

بائبل=کاہن کی سات بیٹیاں بکریوں کو پانی پلانے چشمہ پر آئیں=خروج 12:16

4)لڑکیاں بیٹھے دوسرے چرواہوں کے جانے کا انتظار کر رہی تھیں۔قرآن=القصص 28:24

بائبل=لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں کہ دوسرے چرواہے آکر ان کو کنوے سے بھگانے لگے=خروج 2:17 موسیٰ نے مدد کی(شہر کے کاہن کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک بعید از قیاس ہے)

(حضرت موسیٰ بھی اجنبی ہونے کی وجہ سے جھگڑا نہیں کر سکتے تھے)

5)قرآن=حضرت موسیٰ نے فرعون کو کہا کہ اللہ تعالی نے ہمیں اسلئے بھیجا ہے کہ نبی کو ہمارے ساتھ بھیج دے طٰہٰ 20:48

بائبل=خدا نے کہا فرعون کو کہنا کہ ہمیں تین دن کی مسافت تک بیابان میں قربانی دینے کے لیے جانے دے=خروج 3:18

دھوکہ کی تعلیم مگر خروج 4:22-23 سے قرآن کی تائید

قرآن=حضرت موسیٰ کا ہاتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور نشان کے بغیر بیماری کے سفید ہوا۔طٰہٰ 20:23

بائبل=حضرت موسیٰ کا ہاتھ نشان کے طور پر کوڑھ کی بیماری سے سفید تھا=خروج 4:6

''اگر ایک نبی مخالفین کو ایسا نشان دکھائے کہ اسکے ہاتھ کو کوڑھ ہو جائے تو اسکا جو امر ہوگا وہ صاف عیاں ہے''

قرآن=حضرت موسیٰ نے فرعون کے ہاں جانے سے انکار نہیں کیا تھا بلکہ صرف حضرت ہارون کو ان کی فصاحت کی وجہ سے مددگار کے طور پر طلب کیا=القصص 28:35

بائبل=موسیٰ نے کہا کہ میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں۔تو کسی کے ہاتھ یہ پیغام بھیج دے اسپر خداوند نے موسیٰ کو جھڑکا اور ہارون کو ساتھ بھیجا خروج، 4:13-113:11

قرآن=جب آپ نے پہلی دفعہ آگ کا نظارہ دیکھا تو اس وقت ان کے اہل ان کے ساتھ تھے۔طٰہٰ 20:11

بائبل=حضرت موسیٰ مدیان سے اپنی بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے حورب کے پہاڑ کے نزدیک لائے تو اسوقت ان کو آگ والا نظارہ نظر آیا۔اسپر موسیٰؑ واپس مدیان آکر اپنے بیوی بچوں کو لے کر واپس مصر آ گئے=خروج 3:1-2,13;4:18-20

(نوٹ)مدیان سے حورب کا فاصلہ 30 کلو میٹر ہے۔

''حضرت ہارونؑ''

قرآن=ہارون نے ان(بنی اسرائیل) سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم تم کو بچھڑے کے ذریعہ آزمائش میں ڈالا گیا ہے میری اتباع کرو اور شرک نہ کرو۔ طٰہٰ 20:91

بائیبل= بچھڑا ہارون نے بنایا تھا۔ خروج 32:35

قرآن بچھڑا بنانے کا ذمہ دار سامری کو قرار دیتا ہے=20:97

مگر بائیبل حضرت ہارون کو بچھڑا بنانے کا ذمہ دار اقرار دیتا ہے مگر عجیب بات ہے کہ سزا صرف بنی اسرائیل کو ملی ہارون کا کہیں ذکر نہیں ہے بلکہ الٹا ان کو قوم کا مذہبی سردار بنانے کا انعام دیا= خروج 28-32:27،33-32:32 خروج 16-40:13

''حضرت داؤد''

قرآن=داؤد بار بار خدا کی طرف جھکنے والا تھا=ص 38:18

بائیبل=داؤد نے اپنے جرنیل کی بیوی سے زنا کیا اور پھر اس سے ناجائز بیٹے کی ولادت ہوئی اور پھر اس جرنیل کو قتل کروا دیا=2Sam6-11:2,11:14-18

قرآن=داؤد اللہ تعالی کا مقرب تھا اور اسکو اللہ تعالی کے پاس اچھا ٹھکانا ملے گا=ص 38:26

''تضادات''=بے گناہ=2-Sam29-22:20،دعاستی 2-Sam25-24:

بہتان لگایا گیا=زبور 119:69 اعمال 13:36

حضرت سلیمانؑ

قرآن=حضرت سلیمان نے کوئی کفر والی بات نہیں کی تھی بلکہ اس کے مخالفین اور الزام لگانے والے کافر تھے=البقرہ 2:103

بائیبل=بڑھاپے میں غیر اقوام عورتوں سے شادی کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو گیا اور

خداوند اس سے ناراض ہوا=1-Ki40-11:4

خداوند نے خود اسکا نام مددیاہ پیارا خدا کا جب خدا خود نام رکھتا ہے تو اسمیں پیشگوئی ہوتی ہے تو وہ شرک کیسے کر سکتا ہے=-13:24 2-Sam25

The history of Ancient Israel by Michael Grant1984 Page87

میں لکھا ہے سلیمان کا آخری عمر میں مشرک ہونا اس پر الزام ہے

''حضرت یونس''

قرآن=مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے چونکہ یونس بیمار ہو گیا تھااسلیے ہم نے اسکو دھوپ سے بچانے کے لیے کرو کا درخت اگا یاہ=الصفت 37:46-147

بائیبل=یونس نے اپنے لیے ایک چھپر بنایااور اسکے سایہ میں بیٹھااور پھر خدانے اسپر کدو کا درخت لگایا تکہ اسپر سایہ ہو=یونا 4:5-6

چھپر کی موجودگی میں کدو کے درخت کی کیاضرورت تھی نیز بیمار ہونے کی وجہ سے وہ خود چھپر کیسے بنا سکتے تھا

قرآن=ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا=الصفت 37:144-45

بائیبل=تین دن تین رات مچھلی کے پیٹ میں رہایونا 2:1-10 متی 12:40-41

قرآن میں عرصہ کا تعین نہیں ہے مگر بائیبل کے مطابق تین دن تین رات مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا ذکر ہے مگر اسی طرح حضرت عیسیٰ کی پیشگوئی جھوٹی ثابت ہوئی ہے

دیکھیں یوحنا 19:31-42، 20:1-3 لوقا باب 23-24 اور متی 12:39-41

''حضرت زکریاؑ''

قرآن=حضرت زکریا نے حضرت یحیٰ (یوحنا) کی پیدائش کی خوشخبری پاکر شکرانہ کے طور پر خدا سے اسکا حکم مانگا تو خدا نے کہا کہ تین دن تک لوگوں سے باتیں کرنے کی بجائے میری عبادت و تسبیح کرو=مریم 19:10-12

بائیبل=خدا کی بات کا یقین نہ کرنے پر تیندن تک زبان بند کر دی بطور سزا=لوقا 1:18-20

تضاد=دیگر افراد نے بھی بیٹوں کی پیدائش پر یہی جواب دیا مگر ان کے لیے کوئی سزا نہیں بلکہ سارہ نے نہ صرف یہ کہ خدا کی بات کا یقین نہ کیا بلکہ جھوٹ بھی بولا=پیدائش 18:12-15

مریم کا جواب لوقا 1:23 مگر شاید خدا کے ہاں بھی دوستوں اور رشتہ داروں کا لحاظ ہے۔

''حضرت یحیٰ''

قرآن=نبی تھے، اللہ کی بات پورا کرنے والا ہو گا اور سردار تھے=آل عمران 3:40

بائیبل=حضرت مریم کے پیٹ میں ہی حضرت عیسیٰ کے خداوند ہونے کا اقرار حضرت یحیٰ نے کیا=لوقا 1:43-44

تضادات=حضرت عیسیٰ نے حضرت یحیٰ سے بپتسمہ لیا=متی 3:13-15

حضرت عیسیٰ نے یوحنا کو تمام لوگوں سے افضل قرار دیا=متی 11:11

''حضرت مریم''

قرآن=حضرت مریم کلام کی تصدیق کرنے والی تھیں۔ کتابوںؑ پر ایمان لائی تھیں۔ فرمانبرداروں میں شامل تھیں اور مثالی عورت تھی=التحریم 66:13، آل عمران 3:44

بائیبل=حضرت عیسیٰؑ پر ایمان نہیں لائیں تھیں=لوقا 11:27-28 متی 12:46-50

بائیبل کے مطالعہ اور عیسائیت کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مسیح کے خاندان کے افراد کی کردار کشی کی گئی ہے۔

''حضرت عیسیٰؑ''

قرآن=والدہ سے نیک سلوک کرنے والے تھے ظالم اور بدبخت نہیں تھے=مریم 19:33

بائیبل=ماں کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور ماں کو اے عورت کہہ کر پکارتے تھے=لوقا 11:27-28 متی 12:46-50

قرآن=بابرکت وجود تھے ان کی پیدائش اور وفات سلامتی والی تھی=مریم 19:32-34

بائیبل=خدا کی طرف سے لعنتی ہوئے=گلیتون 3:13، استثناء 21:22-23

لعنتی موت مرے

تضاد=ملعون نہیں تھے=1-کرنتھیون 12:3

لعنتی موت نہیں مرے تھے بلکہ دعا کے نتیجہ میں صلیبی موت سے بچا لیے گئے=عبرانیوں 5:7

''حوارین''

قرآن=اللہ تعالیٰ کے مددگار تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے ان کے دل میں رافت اور رحم تھا

آل عمران 3:53، ایمائیدہ 5:115، الحدید 57:28

بائیبل=جھوٹے مسیح پر لعنت کرنے والے ایک دوسرے پر ملامت کرنے والے شیطان

چور۔ بے اعتقاد۔ کم ایمان۔ مصیبت کے وقت یسوع کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ریاکار تھے۔ متی 26:71-75، گلیتون 2:11، مرقس 9:33، لوقا 22:3-6 متی 14:31، متی 26:56، مرقس 14:71، 14:50

''بنی اسرائیل کی تعداد''

قرآن=بنی اسرائیل جب موت کے ڈر سے مصر سے نکلے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں تھے=2:244

بائیبل=گیارہ قبیلوں کے 20 سال سے اوپر کے مردوں کی تعداد چھ لاکھ تین ہزار پانچ سو پچاس (63550) تھی

خروج 12:37، گنتی 1:45

مگر جیسا کہ ہمیں علم میں بائیبل کے اعداد شمار میں اکثر تضاد پایا جاتا ہے اسلئے یہاں بھی تضاد نمایاں ہے کیونکہ اکثر لاوی کے قبیلہ کو شامل کریں نیز عورتوں اور بچوں کہ بھی شامل کریں تو کل تعداد 25،30 لاکھ بنی ہے اور یہ ناممکن ہے کہ 70 افراد صرف 4 پشتوں میں 25،30 لاکھ کی تعداد تک پہنچ جائیں

قاضیوں کے وقت تعداد 40 ہزار قضاۃ 8-5:7

داؤد کے وقت تعداد 13 لاکھ 2-Sam 24:9

مصر سے نکلنے کے وقت تعداد	40 سال بعد تعداد
بنی شمعون 59،300 گنتی 1:23	بنی شمعون 22،200 گنتی 26:14
افرائیم 40،500 گنتی 1:33	افرائیم 32،500 گنتی 26:37
منسی 32،200 گنتی 1:32	منسی 52،700 گنتی 26:34

تضاد ظاہر ہے باقی قبیلوں کی تعداد میں خاص فرق نہیں ہے مگر ان میں اتنا فرق کیسے ہو گیا

پھر قاضیوں کے وقت کے تمام بنی اسرئیل کی تعداد 4 لاکھ دی ہے قضاۃ 2-1:20،اور بنیمین کی تعداد 26،700 قضاۃ 20:15

تضاد=کل تعداد بنیمین 26700 جنگ میں مارے جانے والوں کی تعداد 25900

قضاۃ 20:21،20:25،20:39،20:46-47،25100 ہزار قضاۃ 20:35

18000 نہیں مرے=قضاۃ،20:42+500 20:45،20:45200

=20:4625000 باقی 600 بچے۔۔مگر تعداد کے لحاظ 1600 یا 1700 بچنے چاہئے تھے

4 پیش۔جو تھی پشت پیدائش خروج 20-6:16

قلیل تعداد کا اقرار=خروج 30-23:29

بنی اسرائیل ایک چھوٹے حصہ میں آباد تھے=جشن کے علاقہ میں عذاب نہیں آیا خروج 8:25،9:26 جشن کا علاقہ جہاں اسرائیلی رہتے تھے

فیصلہ کن حوالہ=بائیبل کے مطابق کل لڑنے کے قابل افراد کی تعداد 63550 ہے مگر خروج باب 38 کے مطابق گنتی کے حساب سے ہر ایک کو نیم مشکل دنیا ضروری تھا اور اس حساب سے مثقال کی کل مشقال 1775 مثقال بنتی ہے اس طرح بنی اسرئیل کی کل تعداد 20 سال سے اوپر کے افراد کی 63550 کی بجائے صرف 3550 افراد بنتی ہے اور اسطرح کل بنی اسرائیل کی تعداد۔۔۔ہزار سے زیادہ بنتی ہیں اور یہ تعداد ایک محقق نے اپنے مضمون On the footsteps of Moses, National

Geographic Jan1976Vol 149, No1Page7,21 by Harveyarden N.G.

Staffمیں دی ہے

یہ صاحب خود اس علاقہ میں تحقیق کی غرض سے گئے اور تحقیق کے بعد لکھا ہے کہ 15000 سے زیادہ تعداد اس علاقہ میں نہیں سما سکتی

موازنہ تعلیم

خدا کی راہ میں خرچ

قرآن کریم=فضول خرچی اور بخل کی درمیانی حالت میں خرچ کرنا میانہ روی=الانعام،17:27،6:142-17:28

30الفرقان25:68 خرچ اسطرح نہیں کرنا چاہیے کہ خود ملامت کا نشانہ بن جائے=17:30ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح=59:10الحشر

بائیبل=سب کچھ بیچ کر غریبوں میں تقسیم کردے=لوقا18:22

"بدلہ لینا یا معاف کرنا"

قرآن=اگر تم (زیادتی کرنے والے) کو سزا دو تو جتنی تم پر زیادتی کی گئی ہے اتنی ہی سزا دو اگر تم صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہو گا=النحل16:127

برائی کا جواب نیکی سے=حٰم سجدہ41:35

بائیبل=شریر کا مقابلہ نہ کرو۔ایک گال پر مارے تو دوسرا بھی آگے کردو کرتہ کے لیے نالش کرے تو چوغہ بھی دے دو ایک کوس بیگار مانگے تو دو کوس چلا جا=متی5:39-40

استثناء32:43،32:41،انسان کو خدا کی صورت پر پیدا کیا ہے=پیدائش1:27

تضاد=تلواریں خریدنے کی تعلیم=لوقا22:36-38

"شادی"

قرآن=انصاف اور برابر سلوک کی شرط کے ساتھ وضرورت پڑنے پر4عورتوں تک سے شادی کی اجازت ہے لیکن اگر عدل نہ کر سکیں تو ایک ہی بہتر ہے=النساء4:4

بائیبل=نگہان ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے=1-Tim3:2،1-Cor7:1-3

گو حضرت مسیح نے کہیں بھی ایک بیوی سے شادی کرنے کا حکم نہیں دیا مگر عیسائی

متی19:4-6 سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں
مگر یہ تعلیم بھی بعض حالات میں ناقابل عمل ہے مثلاً جنگوں کے بعد یورپ میں عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت بہت زیادہ ہے
جرمنی 27لاکھ عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ ہیں اگر وہ شادی نہ کرسکیں گی تو معاشرہ کو یقیناً خراب کریں گیں اسطرح کے مزید
حالات مثلاً بیماری۔بے اولادی وغیرہ
تضاد=حضرت ابرہیم کی دو بیویاں۔یعقوب 4بیویاں موسیٰ دو بیویاں۔داؤد
اب مجبوراً بعض چرچ زائد شادیوں کی اجازت دے رہے ہیں مثلاً انگلیکن چرچ جنکی تعداد 70ملین ہے نے 1988 میں زیادہ شادیاں
کرنے کی اجازت
دے دی ہے(Awake22-12-1988)

"طلاق"

قرآن=قرآن کریم خاص حالات میں طلاق وخلع کی اجازت دیتا ہے=النساء 4:130131 65:1-3
پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔۔۔۔24:27النور
بائیبل=زناکار تکاب۔متی 5:2
ناقابل عمل تعلیم اسکا مطلب ہے کہ عورت چاہے کتنی بے حیا ہو جائے مگر زنا سے بچی رہی تو مرد ہر قسم کی بے حیائی اور بے راہ روی
برداشت کرنے پر مجبور ہے۔

"شادی"

قرآن=عورت باعث رغبت ہے اور شادی باعث سکون=7:190،الروم30:22
بائیبل=شادی باعث تکلیف=1-کرنتھیون7:28
تضاد=آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں=پیدائش2:18

"مسیح کے خدا کا بیٹا ہونے سے مراد"

قرآن=مسیح خدا کے حقیقی بیٹے نہیں صرف نیک بندہ ہونے کی وجہ سے ان کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے۔الانبیاء21:27-28
بائیبل=مسیح کے علاوہ دیگر افراد کو بھی کہا گیا ہے اور مراد ہے خدا کا پیار—نیک شخص

"بیٹا ہونے کے دلائیل"

بیوی نہیں۔مدد کی ضرورت نہیں۔ہر چیز اسکی کردہ ہے حکومت میں کوئی شریک نہیں

الانعام6:102،المؤمنون3:25،23:92الفرقان-بنی اسرئیل17:112،الزمر38:5

"شریعت"

قرآن=باعث برکت ہے=المائیدہ5:45،القصص28:44

بائیبل=شریعت لعنت ہے=گلیتون3:13

-----------موضوع شریعت و قوانین

"شراب نوشی"

قرآن=شراب کا نفع اسکے نقصان سے کم ہے اور شیطانی کام ہے اسلئے اس سے بچو=البقرہ2:22،المائیدہ5:91

بائیبل=آئیندہ پانی کے علاوہ شراب بھی استعمال کیا کرو1-Tim5:23

یہ انسان کے دل کو خوش کرتی ہے=زبور104:15

تضادات=قوانین زندگی کو منع=قضاۃ13:14

مسخرہ اور ہنگامہ کرنے والی=امثال20:1

شراب پینے والا مالدار نہ ہوگا=امثال21:17شرابیوں میں شامل نہ ہو=امثال23:20-21

سانپ کی طرح کاٹتی ہے=امثال23:31-33امثال31:4-6

خوشدلی سے مے پی=واعظ9:7کیونکہ خدا تیرے اعمال قبول کر چکا ہے مے جان کو خوش کرتی ہے=واعظ10:19

"قومی امتیاز-بین الاقومی تعلیم"

قرآن=قبائیل یا قومیت وجہ امتیاز نہیں بلکہ صرف پہچان کا ذریعہ وجہ امتیاز صرف نیکی اور تقویٰ ہے=الحجرات49:14

بائیبل=بنی اسرائیل کے علاوہ دیگر اقوام کتے اور ناپاک ہیں=متی15:22-26

=مختون یعنی یہودی کتے ہیں=فلپیون3:2

=کوئی عمونی یا موابی خدا کی جماعت میں شامل نہ ہو=استثناء23:3

دوسری اقوام سے سود لینے کی اجازت=استثناء23:19

تضاد=حکمت-قوت-مال وجہ فخر نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کو سمجھنا اور جاننا عزت کی وجہ ہے=یرمیاہ9:23-24

"عورت کا مقام بائیبل"

1)ورثہ کا حق نہیں= گنتی27:3-11
2)شادی کے لیے رضامندگی ضروری نہیں--------------
3)عورت نیک نہیں ہوسکتی=واعظ7:27-28
4)عورت ناپاک ہے=ایوب،25:4،15:14 14:1-4
5)عورت کو طلاق کا حق نہیں=استثناء24:1
6)عورت کو بولنے کا حق نہیں=1-کرنتھیون14:37
7)سکھانے کا حق نہیں=1-Tim2:12
8)پردہ محکومی کی علامت=1-کرنتھیون11:15،11:10
9)سرڈھکنے کا حکم=1-کرنتھیون11:5-7
10)عورت کے لیے ہے=1-کرنتھیون11:9
11)بیٹی کو بیچے کا حق=خروج21:7
12)عورت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی=پیدائش2:22
13)عورت گناہ پھیلانے کی ذمہ داری=1-Tim2:13-14
14)مرد کی محکوم=پیدائش3:16،افیسون5:23-24،کلیسون3:18
15)مرد افضل ہے=1-کرنتھیون11:2
16)عورت ڈرتی رہے=افیسون5:33
17)عورت کا معاوضہ شوہر تجویز کرے=خروج21:22
18)مرد نگہبان ہے ططمعاوس3:1
19)شادی ہر مرد عورت کے لیے ضروری ہے=1-کرنتھیون7:1-3
20)زنا کے بغیر طلاق نہیں=متی19:9،5:32،مرقس10:11لوقا16:18
21)ایک سے زائد شادی کی اجازت=استثناء21:15،25:519لازمی ہے
22)عورت مرد یا شوہر کی تابع رہے=طیطس2:5،کلیسون3:18،افیسون5:24،

1- تمتھس 1،2:11-1- پطرس۔۔
23)عورت کے ہاتھ کاٹنا=استثناء25:11

"عورت کا مقام قرآن"

1)فرائض و حقوق=ابقرہ2:229
2)کمائی کی مالک=النساء4:33
3)ورثہ کی حقدار=النساء4:8-12
4)زبردستی وارث نہ بنو=النساء4:20
5)ایک جیسے جذبات اور پیدائش=النساء4:2،الانعام6:100
6انتظامی برتری مرد کی=2:229اور وجہ=الساء4:35
7)عورت بھی پاک ہے=النور24:24،آل عمران3:34،5:76
8)عورتوں کی مثال=66:12-13
9)ایک دوسرے کا لباس=2:188البقرہ
10)عورت کا اجر برابر3:196،4:125،16:98
11)پردہ کا حکم خوبصورتی چھپانے کے لیے=النور24:32
12)پردہ شرافت کا نشان=الاحزاب33:60
13)دونوں ورغلائے گئے=الاعراف7:21-23
14)طلاق پر عورت کو دینے کا حکم=8:242،2:237
15)عورت مرد کی ساتھی ہے=70:14
16)مرد عورت کا قوام ہے=4:351
17)بیوی اگر ناپسند ہو تو پھر بھی گذارا کیا جائے=4:20
18)نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے=2:238
19)مرد اپنی نگاہ نیچی رکھے=24:30
20)ایک سے زائد شادی کی اجازت=4:4

21)عورتوں کے حقوق ہیں=33:51
22)عورت کو خلع کا حق=4:21-22،2:230
23)مسلمان عورت کا کردار=60:12،33:35-36
24)بیوی ذریعہ تسکین=30:22،7:190الروم

عورت کو مارنے کی تعلیم=4:35پہلے نصیحت(2)بستروں سے علیحدگی(3)بدنی سزا''نشوز'' کے معنی4:129اٹھ کھڑا ہونا58:12

BIBLE TEXT

مدفون صحائف سے قرآن کی تصدیق

یہودی کتب، کتب تاریخ اور قدیم نسخہ ہائے بائبل سے قرآنی بیانات کی اور جدید تحقیق سے تصدیق

''قابیل کا ہابیل کو دفنانا''

قرآن=قرآن کے مطابق جب حضرت آدمؑ کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا کہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح دفنائے اس پر اس نے اپنے بھائی کو دفنایا اور پیشمان ہوا=المائدہ5:31-32

بائبل=بائبل میں ایسے کسی واقعہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

When he saw that he (Abel) had died he featured that his Father =تصدیق would demand Abel from him and he didn't know what to do.He raised his eyes and saw the bird that had killed its fellow putting ist mouth to the ground;and it dug a hole and buried the other dead one ;and covered it with earth, At that moment ,Cain did the same to Abel,

(NTG Apparatus4:8) Oxford Bodleian MS Heb C74R toseftot Gen4:7,8,23 Genziah Manuscripts of PTG to Pentateuch.

Resting place of ARK:

مکیQuran: 11:45

And the ARK came to rest on Al-Judi.

Bible: GEN8:4

And the ARK rested……..upon the mountains of Ar-a-rat.

Josephus has mentioned the remains of the ARK in Ararat-Mound Judi near Lake von and Quotes Berossus and other historians.[Nebrews Myths The book of Genesis by Robert Graves and Raphael Patai page 117]

Abraham Showed the Existence of Allah.

مکی6:75-80 Quran

When the night covered him over with darkness he saw the star .He said this is my lord. But when it set, he said, I like not those that set .

When he saw the moon rising up,he said this is my Lord.But when it set he said;unless my Lord guids me,Isall surely be among the arring people.

When he saw the sun rising up,he said this is my Lord.But when it set ,he said;O my people!I am indeed free from all that you Join as partners in worship with Allah verily,I have turned my face Towards him who has created the heaven and the earth.(Al Anam75-80)

Bible:Said not hing about this event.

Jubilees 12:16-20

And…Abraham set up during the night so that he might observe the stars from evening until day break so that he may see what the natures of the year would be with respect to rain ……..And a word come into his heart ,saying,All of the signs of the Stars and the signs of the Sun and the moon are all in the hand of the Lord………..And he prayed on that night,saying;My God the most High God,you alone are God to me And you created every thing which is was the work of of your hands and you and your Kingdom I have chosen……………………..

Abraham migration

Quran 19:47-49 مکی

He(The Father) said;Do you reject my gods, O Ibrahim if you stop not (this),I will indeed stone you.So get away from me safely before I punish you said;peace be on you ….And I shall turn away from you and from those whom you involk besides Allah…….So when he turned away from them and from these whom they worshipped besides Allah.

قرآن کریم کے مطابق ابراھیمؑ نے باپ کی زندگی میں اور باپ کے کہنے پر ہجرت کی تھی۔

Bible Gen11:32,12:1-4

And the days of Te-rah were two hundred and five years;and Te-rah died in Ha.ram.

Now the lord had said into Abraham,Get three out of thy Country,and from the Kindred,and from thy Father’s house into the land a land that i will departed as the Lord had spoken unto him.

بائبل کے مطابق حضرت ابراھیمؑ نے ہجرت باپ کی وفات کے بعد کی تھی۔

Jubilees 12:28-30,131

Andi t came to pass…..that he (Abraham) spoke with his Father and let him know that he was going from Hara nto walk (in) the land of Canaan so that he might see it and return tohim And Tera,his Father,said to him; Go in peace ma God eternal make straight your path and Lord be with you and protect you from all evil………..And when you have seen a land pleasant to your eyes to do well in ,come and Take me to you,………

"کتاب جوبلی کے مطابق بھی ہجرت ابراھیم باپ کی زندگی میں اور باپ کے کہنے پر ہوئی"

Ibrahim and Hajj

Quran 22:28-29 مدنی

And proclaim to mankind the Hajj(Pilgrimage).They will come to you on foot and on every lean camel, they will come from every deep and distant mountain highway to prefor Hajj…..and mention the name of Allah on appointed days over the beast of cattle that he has provided for them (for sacrifice) at the time of their slaughtering.

Bible=Syas nothing about Hajj=

Jublees The Hajj of Booths 16:20-31

And he built an alter to the Lord who delivered him and who made him rejoice in the Land of his sojourm.And he clebrated a feast of rejoicing in this month seven days, near by the altor which he built by the well ofoath and he built booths for him self and for his servents, an that festival.And he first observed the feast of the booths on the earth And in these seven days he was making offering everyday, day by day, on the after a burnet offering to the Lord,........................And he blessed and rejoinced and called the name of this festival of the Lord,........and each day of the days he used to go around the after with branches,seven times per day,in the morning,..............

عبرانی کالفظ جسکا ترجمہ فیسٹ کی گیاہے اصل میں حج ہے اور فیسٹ آف بوتھ سے مراد ہے خیموں کا حج اب کوئی بھی عرفات کے میدان کو حج کے موقعہ پر ایک نظر سے دیکھے گا وہ اسبات کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ یہ خیموں کا فیسٹ ہے اور یاد رہے کہ حج کے مناسک میں میدان عرفات کا منسک ہی سب سے اہم منسک ہے نیز آج دنیا کے تختہ پر سوائے کعبہ کے کوئی دوسرا خدا کا گھر نہیں ہے جسکے سات چکر لگائے جاتے ہوں اور اس موقعہ پر جانور قربان کیے جاتے ہوں اسلیے ذکر حضرت ابراھیم کے کعبہ کے حج کے ذکر کے سوا اور کسی حج کا ذکر نہیں ہے۔

Abraham’s farewell Testimony for his Children.

مدنی Quran 2:132-133

When his Lord said to him, „Submit,“ he said „I have already submitted to the Lordof the worlds.“ The same did Abraham enjoin upon his sons,- and also Jacob also- saying „O my sons, truly Allah has chosen this religion for you, so let not death overtake you except when you are in a state of complete submission.”

Bible

For I know him (Abraham),that he will Command his Children and his houshold after him and they shall keep the way of the Lord, to do Justice and Judgment; that the Lord may bring upon Abraham,that which he hath spoken of him.(Gen18:19)

اب بائیبل کے مطابق بھی خدا تعالی فرماتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹوں کو اللہ تعالی کے راستہ پر اور انصاف کی راہ پر چلنے کی وصیت کریگا لیکن حضرت ابراھیم کی کسی وصیت کا پوری بائیبل میں کوئی ذکر نہیں ہے۔

Jubilee30:1

Abraham called Ismael and his Twelve Children and Isaac and his two children and Keturah's six children and their sons And he commanded them that they should guard the way of the Lord so that they might love his neighbour ,and it should be thus among all men so that one might proceed to act Justly and rightly toward them upon earth...........and that they should not cross over either to the right or left from all of the ways which the Lord commanded us..........

I exhort you,my sons love the God of heaven and be jained to all of his commands

اس کے آگے کچھ احکامات کی تفصیل اور اس کے نتیجہ میں حاصل ہونے والے انعامات کا ذکر ہے اور انعامات کے ذکر میں مزید لکھتا ہے کہ

And you will become a blessing upon the earth and all of the nations of the earth will desire you and they will bless your sons in my name so that they might be blessed just as I am.

اور یہ آخری الفاظ درود شریف کا لفظ بلفظ ترجمہ ہے اور مسلمانوں کے ذریعہ یہ پیشگوئی کی بڑی شان سے پوری ہو رہی ہے۔

Quran 2:128 مدنی

And remeber the time when Abraham and Ismael raised the foundation of the house praying our Lord accept this from us;

Targum (Gen 22:9TgPsJ)

They(Abraham and hiss on) to the place of which the Lord had told him ,and their Abraham(re)built the altor,which,Adam had built and (which) had been demalished by the water the water of the Flood . Noah rebuilt it,but it was demolished in the generation of the Division.

PRE Ch31

He(son) also janded Abrahams stones to rebuild the broken alter which stood there, It had been raised by by Adam and used in turn by Abel ,Noah and Shem.

بائبل میں ایسے واقعہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

Quran21:69-70 مکی

„They said, burn him and help your gods..we said O fire, be thou a means of coolness and safety for Abraham.“

Quran 29:25

And the only answer of his people was that they said, „Slay him or burn him,“ But Allah delivered him from the fire....

Quran37:98

They said, „Build for him a structure and Cast him into the Fire.“

Targum TgPs(Gen11:28)

Andi t came to pass ,when Nimrod cast Abraham into the fiery furnace because he would not worship his idols and there was no Power for the fire to burn him.

Targum TgPs(Gen15 16:5)

Andi t came to pass, when Nimrod cast Abraham into the Fiery furnace because he would not worship his idols and there was no power for the fire to burn him.

Targum TgPsT (Gen15 16:5)

Hagar the Egyptian the hand maid, who is of the children of the peole who threw you into the fiery furnace.

Targum (Gen 15:7)

I am the Lord who brought you out of furnace of fire of the chaladeans. بائیبل میں اس واقعہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ Quran 11:70-71 مکی

And surely, our messengers come to Abraham with glad tidings............and was not long in bringing a roasted calf. But when he saw their hands not reaching there to, he considered this strange on their part and conceived fear of them. They said, „Fear not, for we have been sent to the people of Lot."

Quran 51:25 مکی

Has the story of Abraham's honoured guests reached thee? when they entered upon him....He thought that they were strangers. And he went quietly to his household and brought a fatted calf, and he placed before them and said, „will you not eat?"

Bible Gen18:2-8

And he lifted up his eyes and looked and to three men stood by him…….And Abraham ran unto the herd and fetcht a calf tender and good…..and he took butter and milk and the calf…..and they did eat.

قرآن کے مطابق مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا تھا مگر بائیبل کے مطابق فرشتوں نے کھایا تھا مگر بائیبل کے دوسرے-----------------

Targum Tg Neofiti Gen18:8

Then he took curds and milk and the calf which he had prepared, and placed it before them;…..and they were giving the impression of eating and drinking.

Quran 2:134 مدنی

Were you prsent when death come to Jacob, when he said to his sons, what will you worship after me?They answered We will worship thy God, the God of the Fathers Abraham and Ishmael and Isaac the one God and to Him we submit ourselves.

Bible Not menchend(Mentioned)

Targum Neofiti 1(Gen 49:2)

After the twelve Tribes of Jacob had gathered togalhelher (together?)and sourrounded;the bed of glad on which on Jacob lay……….our father Jacob answered and said to them….lest there should be among you one whose heart is divided against him are to go and worship before foreign Idols,, The twelve….of Jacob answerd to……………dear us , o Israel ,our father;The lord our God is one.

"نصاریٰ اور قرآن کریم"

1) اہل کتاب کو دعوت اتحاد 3:65

2) نصاری میں بھی ایمان دار ہیں 2:63

3) نصاری کے دعوای کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائیگا 2:112

4) یہود و نصاری ایک ہی کتاب پڑھنے کے باوجود ا ایک دوسرے کے متر ادف دعوے کرتے ہیں 2:114

5) نصاری اور یہود اسوقت تک راضی نہ ہونگے جب تک ان کی قوم کی پیروی نہ کی جائے 2:121

6) عیسائیت کے علاوہ ہدائیت نہیں ہے۔ 2:136

7) یہود و نصارای کا دعویٰ کہ ابراھیم۔ یعقوب اور ان کی اولاد ان کے مذہب پر تھے 2:141

8) عسیائیوں سے عہد مگر عیسائیوں کا اس عہد کی تعلیم کو بھلادینا جسکے نتیجہ میں دشمنی پیدا ہونا 5:15

9) نصاری کا دعویٰ کہ وہ اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں 5:18

10) نصاری کو دوست نہ بناؤ 5:52

11) مگر لڑائی نہ کرنے والوں سے دوستی کی ممانعت نہیں ہے الممتحنہ 60:9

12) نصاری ایمان دار اور جنتی ہو سکتے ہیں 5:70

13) نصاری مسلمانوں سے دیگر مذاہب والوں کی نسبت زیادہ محبت کرنے والے ہیں 5:83

14) نصاری کا دعویٰ کہ مسیح اللہ تعالی کا بیٹا ہے 9:30

15) نصاریٰ کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے روزے ہوگا 22:18

"حواری"

1) حواری اللہ کے انصار تھے اور مسیح پر ایمان لانے والے 3:53،61:156 الصف

2) حواری پر وحی اور اسکے نتیجہ میں ایمان لانا: 5:112

بائیبل اور بے ایمان

حواریوں کو بے انعقاد بے ایمان کہتا ہے۔ متی 20-17:17

ایمان کا ثبوت پہاڑوں کا سر کانا۔ متی17:20

ایمان کا ثبوت پہاڑوں کا لوقا9:41مرقس9:19ہے متی اور اس نے ان کی بے اعتقادی کے سبب معجزہ نہ دیکھا13:58ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا مرقس6:6(معجزہ نہ دکھا سکا)

حواری بے ایمان دے اعتقاد تھے مرقس16:14

2-کرنتھیون6:15بے ایمان کا ایمان دار سے کیا واسطہ

نتھیمین(TIM)5:8وہ بے ایمان سے بد تر ہے

ططق(Tit)1:15بے ایمانوں کے لیے کچھ بھی پاک نہیں

1-کرنتھیون10:27بے ایمانوں میں سے کوئی

2کرنتھیون6:14بے ایمانوں کا حصہ آگ اور گندھک ہو گا

1-ٹمتھس بے ایمانی کی حالت

دوسروں کو کتے کہنا۔ متی7:6،15:26مرقس7:27

کتوں سے خبر دار ہو۔ فلپیون3:2،مکاشفہ22:15

جنگ سے متعلق قرآن و بائبل کی تعلیم کا موازنہ

جنگ اور قوانین بائیبل

عورتوں اور بچوں کا قتل۔ استثناء7-12:34-35,3:6گنتی=31:17

صاحب جنگ خدا۔ خروج15:3،زبور24:8،یسمیاہ42:13

جنگ سکھانے والا خدا۔ زبور18:34،144:1

جانوروں اور شر خوار بچوں کا قتل۔ 1-Sam15:1-3،22:19،7:9

دشمن کے فنا ہونے تک لڑائی۔ 1-Sam15:18

صلح نہیں تلوار۔ متی10:34

دشمن کو نابود کرنے کا حکم۔ استثناء7-7:2 ،استثناء20:16-18

جانوروں اور باشندوں کا قتل۔ استثناء13:5

دشمن کو آروں سے چیرنا۔ 2-Sam12:31،1-تواریخ3-20:2

بغیر وجہ کے جنگ۔استثناء2:24

یسوع کا تلواریں خریدنے کا حکم۔لوقا22:36-38،لوقا22:49-51

درختوں کا تباہ کرنے کی تعلیم

قرآنکریم ایک نفس کا قتل تمام انسانیت کا قتل5:33

بت پرست ناپاک ہیں۔الیتھون5:5

قوانین قرآن

دفاعی لڑائی کی اجازت۔12:191-192 ، 22:40، 9:36, 42:40-44

الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ط وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ
وَ بِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ط وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ج فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۰﴾ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ
فَاُولٰٓئِکَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿۴۱﴾ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط
اُولٰٓئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۴۲﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ اِنَّ ذٰلِکَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿۴۳٪﴾ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ
وَّلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهٖ ط وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ط ذٰلِکَ الدِّيْنُ
الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ط وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے لڑائی۔22:41

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ
الْاَمُوْرِ

مذہبی آزادی کے لیے لڑائی۔2:144

اَلشَّہْرُ الْحَرَامُ بِالشَّہْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَیْہِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰی عَلَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللّٰہَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰہَ مَعَ الْمُتَّقِیْنَ

جنگ میں انصاف ترک نہ کرو۔

جنگ نہ کرنے والوں سے نیکی کا حکم

جنگ روکنے کے لیے مجلس کا قیام 49:10

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَۃٌ فَاَصْلِحُوْا بَیْنَ اَخَوَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللّٰہَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُوْنَ

بغیر شرعی جواز کے قتل کی ممانعت 25:69

یُّضٰعَفْ لَہُ الْعَذَابُ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ وَیَخْلُدْ فِیْہٖ مُہَانًا

جبر مٹانے کے لیے۔ 8:40

وَقَاتِلُوْہُمْ حَتّٰی لَاتَکُوْنَ فِتْنَۃٌ وَّ یَکُوْنَ الدِّیْنُ کُلُّہٗ لِلّٰہِ ۚ فَاِنِ انْتَہَوْا فَاِنَّ اللّٰہَ بِمَا یَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ

مظلوم بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے۔ 8:73، 4:76

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَہَاجَرُوْا وَجٰہَدُوْا بِاَمْوَالِہِمْ وَاَنْفُسِہِمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ وَالَّذِیْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْۤا اُولٰٓئِکَ بَعْضُہُمْ اَوْلِیَآءُ بَعْضٍ ؕ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ یُہَاجِرُوْا مَا لَکُمْ مِّنْ وَّلَایَتِہِمْ مِّنْ شَیْءٍ حَتّٰی یُہَاجِرُوْا ۚ وَ اِنِ اسْتَنْصَرُوْکُمْ فِی الدِّیْنِ فَعَلَیْکُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰی قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَہُمْ مِّیْثَاقٌ ؕ وَاللّٰہُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ

وَمَا لَکُمْ لَاتُقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ وَالْمُسْتَضْعَفِیْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِیْنَ یَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اَخْرِجْنَا مِنْ ہٰذِہِ الْقَرْیَۃِ الظَّالِمِ اَہْلُہَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْکَ وَلِیًّا ۚۙ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْکَ نَصِیْرًا

جنگ نہ کرنے والوں سے صلح۔ النساء 4:91، 8:62

اِلَّا الَّذِیْنَ یَصِلُوْنَ اِلٰی قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَہُمْ مِّیْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْکُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُہُمْ اَنْ یُّقَاتِلُوْکُمْ اَوْ یُقَاتِلُوْا قَوْمَہُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰہُ لَسَلَّطَہُمْ عَلَیْکُمْ فَلَقٰتَلُوْکُمْ ۚ فَاِنِ اعْتَزَلُوْکُمْ فَلَمْ یُقَاتِلُوْکُمْ وَاَلْقَوْا اِلَیْکُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰہُ لَکُمْ عَلَیْہِمْ سَبِیْلًا

وَ اِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَہَا وَتَوَکَّلْ عَلَی اللّٰہِ ؕ اِنَّہٗ ہُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

معاہد قوم کی پناہ لینے والوں سے ممانعت 4:91

اِلَّا الَّذِیْنَ یَصِلُوْنَ اِلٰی قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَہُمْ مِّیْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْکُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُہُمْ اَنْ یُّقَاتِلُوْکُمْ اَوْ یُقَاتِلُوْا قَوْمَہُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰہُ لَسَلَّطَہُمْ عَلَیْکُمْ فَلَقٰتَلُوْکُمْ ۚ فَاِنِ اعْتَزَلُوْکُمْ فَلَمْ یُقَاتِلُوْکُمْ وَاَلْقَوْا اِلَیْکُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰہُ لَکُمْ عَلَیْہِمْ سَبِیْلًا

غیر جانب دار لوگوں سے ممانعت 4:90

وَدُّوْا لَوْ تَکْفُرُوْنَ کَمَا کَفَرُوْا فَتَکُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَاتَتَّخِذُوْا مِنْہُمْ اَوْلِیَآءَ حَتّٰی یُہَاجِرُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْہُمْ وَاقْتُلُوْہُمْ حَیْثُ وَجَدْتُّمُوْہُمْ ۪ وَلَاتَتَّخِذُوْا مِنْہُمْ وَلِیًّا وَّلَانَصِیْرًا

زیادتی کی ممانعت۔16:127

وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ؕ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ

دین میں جبر نہیں42:16، 88:22-23، 2:257، 18:30، 10:109

فَلِذٰلِکَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَاتَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ؕ اَللهُ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ ؕ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ؕ اَللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا   وَّجَآءَ رَبُّکَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۟ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى * لَاانْفِصَامَ لَهَا ؕ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۟ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى * لَاانْفِصَامَ لَهَا ؕ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَايَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ

عیسائیوں کو دوست بنانا اور اچھا سلوک کرنا60:9-10

ؕاِنَّ اللهَ يُحِبُّ اِلَيْهِمْ لَايَنْهٰىكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿۸﴾ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

دشمن سے جگری دوستی نہ کرو60:2-3

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَ اِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِىْ سَبِيْلِىْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِىْ * ۖ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ * ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿۱﴾ اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَ وَدُّوْا لَوْتَكْفُرُوْن

َ

نہ لڑنے والوں سے دوستی اور نیکی کرنے کی تعلیم۔60:9-10

ؕاِنَّ اللهَ يُحِبُّ اِلَيْهِمْ لَايَنْهٰىكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿۸﴾ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

زیادتی کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے سزا ۔5:34-35

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ؕ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۳۳﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

مشرکوں کو پناہ دینے کی ہدایت9:6

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

بدلہ لیتے وقت انصاف کا حکم اور معاف فرمانا بہتر16:127-128

قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُوْنَ ﴿۲۶﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْىَ الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

معاہدہ توڑنے والوں سے جنگ کرو9:6

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"آنحضرت ﷺ کی پیشگوئیاں"

1)سفید گھوڑے پر سوار۔ سچا اور برحق۔ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرنے والا۔ اسکا نام جسکو اسکے ہو کوئی نہیں جانتا۔ خون کی جھڑ کہ ہوئی پوشاک پہنے ہوئے۔ اسکا نام کلام خدا۔ آسمانی فوجیں سفید گوڑوں پر سوار اور سفید لباس پہنے ہوئے اس کے پیچھے۔ قوموں کے تا مرنے کے لیے اسکے منہ سے تلوار نکلتی ہے۔ لوہے کے عصا سے حکومتا سکا نام بادشاہوں کا

بادشاہ اور خداوند کا خداوند۔ مکاشفہ 19:11-17

زبور۔ تلوار والا، سچائی۔ حلم۔ صداقت۔ تیز تیز دشمنوں کے دل میں لگے راستی کا عصا۔ صداقت سے محبت

اور بدکاری سے نفرت تیسرے ہمسروں سے زیادہ مسح کیا۔ معزز شہزادیاں۔ زبور45:2-10

گناہ کی معافی

خدا شفیق ہے۔ زبور130:3-47

رحیم ہے۔رومیوں 9:15-18 خروج 33:19

معاف کرنے ولا۔زبور 78:38، 86:5، 86:15، نحمیاہ 9:17-18

امثال 28:13۔لوقا 17:4، متی 19:21-22 لوقا 3:13، 3:2-6

اعمال 8:22،رومیوں 9:15-18، متی 12:41

توبہ اور نیکی کرنے سے۔متی 17:4، متی 19:21-23، متی 16:15، مرقس 11:26

یرمیاہ 5:1

شفقت اور سچائی سے۔امثال 16:6،یسعیاہ 1:15-18،ایوب 11:13-14

"قدیر کا قانون"

ادنیٰ اعلیٰ پر قربان ہوتا ہے روزمرہ کا اصول تجربہ شریر صادق کا

فدیہ۔۔امثال 21:18،امثال گنتی 25:7-13

یوحنا 11:50 (یہودی جو یسوع کو جھوٹا سمجھتے تھے ان کا بیان)

کیونکہ وہ یسوع کو گناہ گار سمجھتے تھے۔یوحنا 9:24،یوحنا 18:30

خدا کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔لوقا 5:21

بائبل میں ایمان کی نشانیاں

پہاڑ چلا سکتے ہیں۔متی 22،21:21-17:21،لوقا 17:5-6

بدروحوں کو نکالیں گے-نئی زبانیں بولیں گے-بیماروں کو شفا دیں گے۔مرقس 16:1618

مجھ سے بھی بڑے کام کرے گا۔یوحنا 14:12

دعا قبول ہو گی۔متی 21:21-22 یعقوب 5:15،یوحنا 14:2، 15:7

ایمان-دائمی ھے۔کرنتھیون 13:13

بپتسمہ پانے والا روح القدس پائے گا اور یہ وعدہ دور کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔اعمال 3:38-39

نیک کی دعا سنی جاتی ہے۔یوحنا 9:31

ایمان بڑھانے کا نسخہ۔نوافل کی ادائیگی 17:5-10

کو شخص دوسرے کے گناہ نہیں اٹھا سکتا۔ حزقیل 20-18:5

گناہ کی معافی کے اصول

رحم سے۔ متی 12:7،9:13 گنتی 20-14:19

نیکوں سے۔ امثال 21:3، ہوسیع 6:6

توبہ اور دعا سے۔ یعقوب 5:15، استثناء 20-9:8، 2 تواریخ 6:25۔ 1 یوحنا 5:16، 2 تواریخ 6:27،7:14، 6:30

دوسروں سے نیک سلوک کرنے سے۔ لوقا 11:4

صبح بھی معاف کر سکتا تھا ۔ متی 9:6، رقس 2:10، لوقا 5:24

توبہ سے۔ زبور 32:5، یسعیاہ 7-55:6 یرمیاہ 15-3:12

گناہوں کے اقرار سے۔ امثال 28:13، لوقا 25-15:4 ، متی 25-18:23، اعمال 8:22، متی 6-3:2، مرقس 5-1:4

بائبل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے علاوہ بے گناہ انسان

حنوک۔ پیدائش ،5:24، عبرانیوں 11:5

حنوک خدا کا پسندیدہ اور محبوب۔ حکمت 11-4:10

بچے بے گناہ ہیں۔ متی 18:3

نوح= پیدائش 6:9

لوط راستباز۔ 2 پطرس 8-2:7

کالب۔ نحمیاہ 9:7، استثناء 1:36

ابراہیم۔ پیدائش 26:5 یسعیاہ 11:22 نحمیاہ 8-9:7، یعقوب 2:23

داؤد۔ 1 سلاطین 14:8،11:34 اعمال۔ 13:22،13:36

ایوب۔ ایوب 2:3،1:1،1:8

سدرک۔ میک۔ عید نحو۔ دانیال 27-3:21، دانیال 6;22

زکریا اور اسکی بیوی۔ لوقا 1:6

یوحنا اسطباغی۔ 1:15 لوقا ماں کے پیٹ سے روح القدس، رقس 6:20

یوسیاہ۔2۔سلاطین۔23:25،حزقیاہ،2۔سلاطین18:5-6

شمعون۔لوقا2:25،2:37

مالک صدق سالم۔پیدائش14:18

انسان خدا کی صورت پر پیدا ہوُا ہے

وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے۔1۔کرنتھیوں11:7

وہ (یسوع) خدا کی صورت پر تھا۔فلپیون2:6، کلیسون1:15

جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے۔یعقوب3:9

سمسون۔قضاۃ13:4-5،13:7،یوسف۔متی1:19

کرنیلس۔اعمال10:22

ابراہیم بے عیب تھا۔حکمت10:5

بنی اسرائیل کی بے عیب نسل10:15حکمت

دیگر انبیاء =متی13:17،متی5:45

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پیشگوئیاں

بکہ یعنی مکہ کے متعلق۔زبور84:4-7

LXXمیں شریعت لانے کی پیشگوئی

دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ۔استثناء33:2-3

موسیٰ کی مانند نبی۔استثناء18:15-22،اعمال3:21-23

عرب کی بابت۔یسعیاہ21:13-17

قرآن کے متعلق۔یسعیاہ13-28:9،مکاشفہ،20:12-13

دائمی شریعت۔یسعیاہ7-9:6،نیا گیت ،یسعیاہ42:10-17

بہادر جنگی مرد۔یسعیاہ42:10-17

اسلام کی خبر دینے والا۔ یرمیاہ28:9

حضرت داؤد کی پیشگوئی45:1-9زبور

حبقوق کی پیشگوئی۔حبقوق3:1-14

نیانام دیاجانے کی پیشگوئی۔یسعیاہ62:1-6

محمدیم کادس ہزار سے ممتاز ہونا۔غزل لغزلات5:10-16

اچانک ہیکل مین آنے کی پیشگوئی۔ملاکی3:1

خداکے پیاروں کی نشانیاں

کھائیں گے پیئینگے۔یسعیاہ65:13

مغضوبوں پر لعنت کریں گے۔یسعیاہ65:15

خدائے برحق کے نام سے دعاکریں گے۔65:16

خدائے برحق کے نام کی قسم کھائیں گے۔65:16

نئی زمین اور نیا آسمان پیدا کروں گا۔65:17

خداوند کے مبارک لوگوں کی نسل ہیں65:23

ان کی دعاقبول کی جائے گی پیشتراس سے کہ وہ دعاکریں

جانور کوہ مقدس پر ضرر نہیں پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے۔یسعیاہ 65:25

منصوبوں کی نشانیاں

سؤراور مکروہ چیزیں کھائیں گے۔66:17

تمام بنی آدم کے لئے نفرتی ہونگے۔66:24

پیاسے اور بھوکے رہیں گے۔65:13

شرمندہ رہنا۔65:13

خدا کے نام کی خاطر خارج کرنے والے شرمندہ ہونگے۔یسعیاہ66:2-8

انجیل کی پیشگوئیاں

دوسرا مددگار۔سچائی کا روح۔یوحنا14:16-17

تمام باتیں سکھائے گا۔میرس باتیں یاد کرائے گا۔اطمنان دیتاہوں۔

اصل ترجمہ اسلام ہے۔یوحنا14:25-27

میری گواہی دے گا خاتم النبیین۔یوحنا15:27-27

خدا سے خبریں پائے گا۔یوحنا16:7-15

آئندہ کی خبریں۔یوحنا16:15

روح القدس پہلے نبی دے چکا تھا۔یوحنا20:19-23

اب تم ان باتوں کی برداشت نہیں رکھتے۔یوحنا16:12-13

خداوند کے آنے کی پیشگوئی۔

خدا کی بادشاہی دوسری قوم کو دینے کی پیشگوئی۔متی21:43

آمد ثانی

پیشگوئی کا ذکر۔متی باب24،مرقس باب13،لوقا باب21

خود نہیں آئے گا جیسے ایلیا خود نہیں آیا۔ متی 17:12-13، متی 11:13-14

ایلیا کے آنے کی پیشگوئی۔ ملاکی 4:5-6

ایلیا آسمان پر چلا گیا۔ 2۔Kin 2:11

یوحنا ایلیا کی روح اور قوت سے آیا۔ لوقا 1:17

علامات

ہیکل کی تباہی۔ متی 24:1-2

نئی پیدائش کے ساتھ آئے گا۔ متی 19:28

جھوٹے مسیح اور نبیوں کا آنا۔ متی 24:11،24:5

ماننے والے قتل ہونگے۔ متی 24:9، مرقس 13:9-10،13:12

بے دینی بڑھ جائے گی۔ خدا کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ متی 24:11

ایمان غائب ہو جائے گا۔ لوقا 18:8،1-Tim3-4:1،

بادشاہی کی منادی تمام دنیا میں ہو گی۔ متی 24:14

پورب سے پچھم کو آئے گا۔ متی 24:27

چاند سورج کو گرہن لگے گا۔ متی 24:29 متی 24:30

کی آواز کے ساتھ فرشتے برگزیدوں کو جمع کریں گے۔ آسمان زمین کے اس کنارے سے اس کنارے تک۔ مرقس 13:27

ضرور آئے گا۔ یہ پیشگوئی ضرور پوری ہو گی۔ متی...............

لڑائیاں ہونگی۔ متی 24:7

کال پڑیں گے۔

زلزلے آئیں گے۔

مسیح کے آنے کا وقت کوئی نہیں جانتا۔ متی 24:36-42،24:44-46،لوقا 12:40

دنیا روزمرہ کے کاروبار میں مشغول ہو گی۔ متی 24:44-46

دجال کے ظہور کے بعد مسیحا آئے گا تھسلنیکیون۔ 2:2-4

دوبارہ آمد کی منادی کرنی چاہئے تھسلنیکیون 4:18

دجال اس کی دعاؤں سے ہلاک ہوگا تھسلنیکیون2:8-9،مکاشفہ 19:19-20

جنگ کا خاتمہ ہوگا۔یسعیاہ2:4،میکا 4:3-4،زبور 72:7-16

اسرائیل ایک ہو جائے گااوران کاایک ہی بادشاہ ہوگا۔حزقیل37:19-28

اسرائیل تمام دنیاسے اکھٹے ہونگے۔یسعیاہ11:11-12،27:13،حزقیل37:11-14،یسعیاہ 37:31-32،-35:1-9،24-33:13، 32:15-20، 30:18-26، ،حزقیل16:60-63،یوایل3:1-21،میکا5:2-9،عاموس 9:9-15،ملاکی4:3-6،زکریا8:1-8

آمد یقینی۔یوحنا14:3، عبرانیوں9:28،فلپیون3:20-21،مکاشفہ22:20

چور کی مانند آئے گا۔مکاشفہ16:15،تھسلنیکیون5:2-3، متی24:37-39،پطرس3:10

اچانک آئے گا۔متی24:42

بعض تضادات

خداوند جب آئے گا تمام مردے زندہ ہونگے۔خداوند للکار،فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ آئے گا۔آسمان سے اترنے۔۔اسکا استقبال ہوگا۔زمین والے لوگ تھسلنیکیون4:13-18

زمین پر آئے گا۔امین بر حق کہلائے گا۔خون سے چھڑکا ہوٗا لباس پہنے گا منہ سے تیز تلوار نکلے گی۔لوہے کے عصا سے حکومت کرے گا۔بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا۔مکاشفہ9:1-16

چور کی مانند آئے گا۔مکاشفہ16:15، 2۔پطرس3:10

عدل واصاف کرے گا۔شریراس کے دم سے ہلاک ہوگا۔ظالم کو منہ کی چھڑی سے مارے گا۔امن ہوگا۔فساد نہ ہوگا۔یسعیاہ

عورت کا بچہ لوہے کے عصا سے حکومت کرے گا۔مکاشفہ12:1-6

مسلمانوں کے مطابق مکہ میں آئیں گے۔یہودی اور عیسائی کہتے ہیں یروشلم میں آئے گا۔

زمین اور سمندر کا حیوان

دجال

سات سر۔ دس سینگ۔ دس تاج۔ سروں پر کفر لکھا ہو گا۔ شکل چیتے کی۔ پاؤں ریچھ کا منہ ببر کا۔ اژدہا نے اسکو اختیار دیا۔ دنیا اس کے پیچھے ہو گی۔ حیوان اور اژدہا کو لوگ سجدہ کرینگے۔ اس سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہ ہو گی۔ (ساڑھے تین سال) بڑا بول اور کفر بکے گا 42 ماہ رہے گا۔ مقدسوں سے لڑائی کر کے غالب آئے گا۔ مکاشفہ 13:1-10

آسمان سے زمین پہ آگ برسائے گا۔ حیوان کو سجدہ نہ کرنے والے قتلکئے جائینگے۔ سبکو نشان لگائے گا تاکہ کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے سوائے ان کے جن پر اس حیوان کا نشان ہو۔ مکاشفہ 13:11-18، اسکا عدد 666۔ ہے۔ مکاشفہ 13:18

دجال کی دیگر علامات

خدا کے مخالف، خدا کے بندوں پر ظلم کرے گا

عہدوں اور شریعتوں میں تبدیلی کرے گا۔ ساڑھے تین زمانوں تک رہے گا۔ دانیال---:12

دجال کی علامات

ہر معبود سے بڑا ہونے کا دعویٰ کرے گا تھسلنیکیون 2:4

دنیا میں امن قائم کرنے کا دعویٰ کرے گا۔ مکاشفہ 6:2

سفید گھوڑے پر سواری

لا مذہب ہو گا عملی طور پر۔ باپ دادا کے معبود کی پرواہ نہیں کرے گا بلکہ خود کو سب سے بالا سمجھے گا۔ دانیال 11:37

فوجی طاقت پر گھمنڈ کرے گااور اپنی طاقت یا حمایت حاصل کرنے کے لئے بے پناہ دولت خرچ کرے گا۔دانیال11:38

حکمرانی اور زمین بانٹے گا۔دانیال11:39

جو اس کو قبول کریں گے ان کو دولت دے گا۔دانیال11:39۔مکاشفہ،6:12-17موازنہ قرآن القیمہ -75:9-10-12-13 ،المرسلات77:9-10-11،النساء78:20-21 ، التکویر81:2-4 ،82:2-3

یاجوج وماجوج زمین کے چاروں طرف سے جمع ہو کر لڑائی کریں گے۔۔۔۔۔۔۔۔شہر کو گھیر لیں گے۔آسمان سے آگ نازل ہو کر ان کو کھا جائے گی۔مکاشفہ 20:7-10

دجال کانا ہوگا۔آنکھوں کے درمیان ک ۔ف ۔ر لکھا ہو گا جسے ہر کوئی پڑھ لے گا۔اس کے حکم سے بارش ہو گی۔ تمیں اگائے گی۔ اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ خزانے اس کے پیچھے ہو لیں گے۔اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہو گا اور پانی کی نہر ہو گی۔دجال چمک دار گدھے پر ظاہر ہو گا اور اس گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہو گا۔(مشکوۃ کتاب الفتن)

حضرت مسیح رسول الی بنی اسرائیل

حواریوں کو غیر قوموں کی طرف نہ جانے کا حکم۔متی 10:5-6

صرف اسرئیل کے لئے بھیجا گیا ہوں۔متی 15:21-28

پاک چیز کتوں کو نہ دو(غیر اقوام کتے ہیں)۔متی 7:6

یہودیوں کا بادشاہ۔متی 27:28،2:2،یوحنا 1:49

لڑکوں کی روٹی کتوں کو نہیں ڈال سکتا۔مرقس 7:27

یہودیوں کے سوا کسی کو تبلیغ نہ کرتے تھے۔متی11:19،13:24

پطرس پہ غیر قوموں کو تبلیغ کرنے کاالزام۔اعمال11:1-3

اسرائیلی کے سب شہروں میں پھرنے کی پیشگوئی۔متی 10:23

یعقوب کے گھرانے پر بادشاہی۔لوقا 1:32،متی 2:6

اسرائیل کے قبیلوں کاانصاف کرنے کی پیشگوئی۔متی19:28

اسرائیل پر ظاہر ہو۔یوحنا 1:31

ایسے انداز میں تبلیغ کہ غیر اسرائیلیوں کو سمجھ نہ آئے
تمثیلی بیان کی وجہ۔ مرقس 4:10-12
اسرائیل کے لئے منجی۔ لوقا 2:8-11

حضرت عیسیٰ صرف نبی اللہ تھے

نبی وطن میں مقبول نہیں ہوتا۔ لوقا 4:23-24، یوحنا 4:43-45
گلیل سے نبی برپا نہیں ہوگا۔ یوحنا 7:52
نبی کے نام سے نبی کو قبول کرنے والا نبی کا اجر پائے گا۔ متی 21:11
لوگ اس کو نبی جانتے تھے۔ متی 21:46
بڑا نبی برپا ہوا ہے۔ لوقا 7:16
نبی آنے والا یہی ہے۔ یوحنا 6:14، یوحنا 7:41، 9:18
خدا نے بھیجا ہے۔ یوحنا 8:1، 4:34، 5:30، 5:36-37، 6:38 یوحنا 6:44، 6:57

علامات دجال۔ بائبل اور حدیث میں

ڈھانپ لینے والی چیز کیونکہ وہ زمین کو ڈھانپ لے گا۔
سیر وسیاحت کرنے والا یعنی جب کسی نے تمام روئے زمین کو امنی سیر وسیاحت سے قطع کر لیا ہو۔
بڑا مالدار خزانے والا۔
سونے کو بھی دجال کہتے ہیں۔
بڑا گروہ۔

جو تجارت کے احوال اٹھائے پھرے۔

(تاج العروس)

نشانیاں

آخری زمانہ میں نکلے گا۔

دنیا کو دین سے ملائیں گے۔

بھیڑوں کے لباس میں ظاہر ہونگے۔زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی مگر دل بھیڑیے کی طرح ہونگے۔

(کنز العمال جلد7)

دجال کے فتنے سے بچنے کے لئے سورۃالکہف کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھنے کی ہدایت۔

حضرت تمیم داری نے دجال کو گرجے میں بندھاہوُادیکھا۔

(مسلم باب خروج دجال)

دجال کے مقابلے کے لئے مسیح موعود قرآن سے طاقت حاصل کرے گا۔

(کنز العمال جلد7)

یاجوج ماجوج کثرت سے دنیامیں پھیل جائینگے۔دنیامیں فساد پھیلائیں گے۔الکہف،18:95-102

الانبیاء2:96-99

سچے اور جھوٹے نبی کی پہچان

سچے نبیکی پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں۔استثناء 18:18

جھوٹانبی مارا جاتاہے اور نیست ونابود کیا جاتاہے۔زکریا13:3، یرمیاہ29:31-32،استثناء18:20یرمیاہ28:15-17

سچے نبی ہمیشہ مخالفین کے مقابلہ میں کامیاب ہوتے ہیں۔سلاطین18:15-39، گنتی16:1-35

انبیاءپر غیب کی خبریں ظاہر کی جاتی ہیں۔یرمیاہ 33:2

سچے نبی کی پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں۔یرمیاہ28:9،قرآن72:27-28

سچے نبی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔یوحنا 9:21،11:41-42

سچے نبی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اوران کو کوئی مخالفت کے باوجود ناکام نہیں کر سکتا۔اعمال5:33-40

دعوٰی نبوت سے پہلے کی زندگی اور کردار بے عیب ہوتا ہے۔ یوحنا 8:46
اللہ تعالیٰ سچے نبی کی مدد کرتا ہے اور وہ غالب ہوتے ہیں۔ یوحنا 8:29
وہ اپنے پھلوں یعنی پیروکاروں کے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ متی 7:15-18
جھوٹے نبی بھی معجزات دکھا سکتے ہیں۔ متی 24:24-25

دجال کی مزید علامات

دجال گرجے میں زنجیروں سے جکڑا ہوُا تھا۔
دجال نے غیب کی خبریں بتائیں۔
عنقریب جزیرہ سے نکلے گا اور ساری دنیا میں گھوم جائے گا مگر مکہ اور مدینہ میں نہیں جائے گا۔
دجال بحیرہ احمر کی طرف سے ظاہر نہیں ہو گا بلکہ مشرق کی طرف سے ظاہر ہو گا مگر مشرق کا رہنے والا نہیں ہو گا
(صحیح مسلم کتاب الفتن فی خروج الدجال)

شام اور عراق کے درمیان کے علاقعہ میں ظاہر ہو گا۔
جدھر رخ کرے گا قتل وغارت اور فتنہ وفساد برپا کرے گا۔
40 دن رہے گا مگر ایک دن ایک سال کے برابر مہینہ کے برابر اور ہفتہ کے برابر ہو گا اور عام دنوں کے برابر بھی۔
تیز رفتاری سے چلے گا یا دنیا میں گھومے گا۔
ایمان لانے والوں پر بارش برسائے گا۔ زمین کو فصلیں اگانے کا حکم دے گا۔ ان کے جانور زیادہ دودھ دیں گے۔
ایمان نہ لانے والے قحط اور مصیبت کا شکار ہونگے اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔
ویرانے دجال کے کہنے پر خزانے الٹ دیں گے۔
نوجوان کو قتل کر کے اسکو زندہ کر دے گا۔
اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو برپا کرے گا جن سے کسی کو لڑنے کی طاقت نہ ہو گی۔
یاجوج ماجوج کو طاعون ہلاک کرے گی۔
شریر اور علی الاعلان بدکاری کرنے والوں پر قیامت آئے گی
(مسلم کتاب الفتن)

یک چشم ہو گا۔ پیشانی پر کافر لکھا ہو گا۔
(مسلم کتاب الفتن۔ مسند احمد)

دجال ایک گدھے پر سوار ہو گا جو چاند کی طرح چمکے گا۔اس کے کانوں کے درمیان ستر باع کا فاصلہ ہو گا۔
(مشکوٰۃ کتاب الفتن)

دجال کے گدھے کا کان ستر ہزار لوگوں پر سایہ کرے گا۔
(تفسیر در منصور)

شراب
قران کریم

شراب۔ جوٗا شیطانی کام ہیں ان سے بچو۔ المائدہ 5:91

شراب اور جوئے کے ذریعہ عداوت اور کینہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتے ہیں۔5:92

شراب اور جوئے کا نقصان زیادہ ہے اور فوائد کم۔ 2:220

شراب
بائبل

شراب پی کر خیمہ اجتماع (مقام مقدس میں جانا منع ہے)۔ احبار 10

نذیر یعنی واقف زندگی کے لئے شراب پینا منع ہے۔ گنتی باب 6

شراب میں متوالے ہونا منع ہے افسیون 5:18

خمار اور نشہ بازی میں سست ہونا منع ہے۔ لوقا 21:34

شراب نقصان دہ ہے۔ امثال 31:6

مے سے ہنگامہ اور مسخرہ پن پیدا ہوتا ہے اور اس کا پینا دانائی نہیں ہے۔ امثال 20:1

شرابی کھاؤ اور کنگال ہو جاتے ہیں۔ امثال 21-23:20
مے سے بصیرت جاتی رہتی ہے ہوسیع 4:11

سؤر کی حرمت
قرآن کریم

مردار۔ خون۔ سؤر کا گوشت۔ مردہ اور اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پر ذبح کیا ہوُا جانور حرام ہیں۔ 5:4 المائدہ

بائبل
سؤر کی حرمت

جس جانور کے پاؤں چرے ہوئے ہوں مگر وہ جگالی نہیں کرتا انکا گوشت کھانا منع ہے۔ استثناء 14:8
سؤر اسی بناپر ناپاک ہے۔ آحبار 11:7
اونٹ۔ سامان۔ خرگوش بھی ناپاک ہیں۔ 6-11:4
سؤر نفرتی چیز ہے۔ یسعیاہ 4-65:3
موتی سؤروں کے آگے نہ ڈالیں۔ متی 7:6
ناپاک روح سؤروں میں چلی گئیں۔ متی 32-8:30

نئے عہد نامہ پر اعتراضات

بپتسمہ کے واقعہ میں تدریجی تبدیلی
رقس۔ گناہوں کی بخشش کے لیے بپتسمہ لیا۔
متی۔ گناہوں کی معافی کا ذکر نہیں کرتا۔ بلکہ یوحنا کی بپتسمہ دینے میں ہچکچاہٹ کا ذکر۔

یوحنانے بپتسمہ کاذکر تک نہیں کیا۔

لوقا کے مطابق یسوع Inn-Stable میں پیدا ہوُا 2:7

متی کے مطابق پیدائش بیت لحم میں ہوئی مگر Justin اور Orggen واضح طور پر کسی غار میں پیدا ہونے کاذکر کرتے ہیں اگر ان کے نزدیک موجودہ اناجیل کا بیان درست ہوتا تو یہ اختلاف نہیں ہو سکتا تھا-----

مگر Gospel of James میں "غار میں پیدا ہونے کاذکر ہے۔

Justin کے مطابق یسوع یردن میں بپتسمہ لیکر پانی سے باہر آیا تو آسمان پر آگ نمودار ہوئی

Epiphanius کے مطابق Gospel according to Hebrew میں اس موقعہ پر روشنی ظاہر ہونے کاذکر ملتا ہے۔

Marcion کے نزدیک صرف ایک انجیل ہی 140 تک مصدقہ ہے۔

Gospel of Peter میں ذکر ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد 12 حواری مغموم تھے اور روتے تھے اسمیں یہوداسکریوطی کے اکراج کا کوئی ذکر نہیں۔Paul بارہ نے دیکھا

نیا عہد نامہ پر اعتراضات

متی کے نسب میں 4 نسلوں کی کمی ہے مثلاً متی کے مطابق Joram اور Jonathan کے درمیان صرف دو نسلیں ہیں مگر ا۔تواریخ 3:11-12 کے مطابق 5 ہیں اور متی Johoiakim کے درمیان ملتا ہے۔

لوقا کے بیان کردہ نسب نامہ میں Jechoniah کاذکر نہیں ہے کیونکہ یرمیاہ 22:30 کے مطابق اس کی نسل سے کوئی داؤد کے تخت کا وارث نہیں ہو سکتا مگر لوقا کے مطابق یسوع داؤد کے تخت کا وارث ہوگا۔لوقا 1:32-33

مردم شماری کاذکر سوائے لوقا کے کسی نے نہیں کیا۔ 37Herod Bc سے 4 Bc تک حکمران رہا ہے مگر اس کے عہد میں کوئی مردم شماری نہیں ہوئی۔دیگر اعتراضات (Cyrenius سوریا کا گورنر تھا لوقا 2:2)

صرف مردم شماری کی خاطر بیت لحم میں جو کہ ناصرہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے کیا ضرورت تھی کیا محض اس لئے کہ ہزار سال قبل اس کے آباءواجداد میں سے داؤد وہاں پیدا ہوُا تھا۔

اناجیل میں پائی جانے والی اخلاقی تعلیم تمام کی تمام بت پرست اقوام میں موجود تھی جیسا کہ بعض Bishop نے اقرار کیا ہے

Farrer اور Thirlwall وغیرہ

ستارہ کا اس گھر پر ٹھہرنا جہاں پر مسیح تھا۔ متی 3:9

تعلیم پر اعتراضات

رشتہ داروں سے لاتعلقی کی تعلیم۔ لوقا 14:26، مرقس باب 10، متی 19:29

شادی کے متعلق تعلیم۔ متی 12-19:10، کرنتھیوں باب 7

جہنم کی آگ کی دائمی سزا۔ متی 46-25:31

ہاتھ پاؤں کاٹنے کی تعلیم۔ مرقس باب 9

ناقابل عمل تعلیم۔۔۔۔۔۔کو فروخت کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے کی تعلیم۔ مرقس باب 10

دشمنوں سے محبت کی تعلیم۔(سب سے بڑا دشمن تو شیطان ہے) لوقا 9:48، متی 12:30 (متضاد تعلیم)

متی 12:56 کہ ابن آدم سزا دینے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے والا فقرہ قدیم مسودات میں نہیں ہے۔

غصہ نہ کرنے کی تعلیم مگر خود غصہ کیا۔ مرقس 3:5، متی باب 5 کی تعلیم۔

انکساری کی تعلیم مگر خود کو سلیمان سے بھی بڑا کہا ہے۔ متی 11:42, 11:29

جو کسی کو احمق کہے وہ جنت کی سزا کا سزاوار ہے مگر خود دوسروں کو احمق کہا ہے۔ متی 23:17، لوقا 12:20

دشمن کی محبت کی تعلیم مگر یہودی علماء کو کہا۔ متی 33-23:29

یوحنا میں مسیح کے دوبارہ آنے کی کوئی پیشگوئی نہیں ہے کیونکہ ابتداء میں عیسائیوں کو مسیح کے جلد دوبارہ آنے کی توقع تھی۔ جب وہ پوری نہ ہوئی تو مایوسی کی وجہ سے ذکر ہی چھوڑ دیا۔

مرقس 52-14:51 میں ننگا بھاگنے والا واقعہ عاموس 11:16 کی پیشگوئی پوری کرنے کے لئے گھڑا گیا ہے۔

استثناء17:13 کی بناء پر چونکہ یسوع کو یہودی جھوٹا سمجھتے تھے اس لئے صلیب پر لٹکایا گیا تھا۔

تضاد۔ مرقس اور متی متفق ہیں مگر یسوع کے مقدمے کی ساعت کے واقعات کے سلسلہ میں لوقا مختلف ہے۔

تین گھنٹے اندھیرا چھانا۔ زلزلوں کا آنا اور مردوں کا زندہ ہونا کسی تاریخ دان نے بیان نہیں کیا۔

اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ مردوں میں سے زندہ ہونے والوں میں سے یسوع سب سے پہلا تھا۔ اعمال26:23

یسوع نے صلیب کے موقعہ پر یہودیوں کو معاف کرنے کی دعا کی تھی تو سزا کیوں ملی۔(لوقا 44-19:41 ,30-23:27 یروشلم کی تباہی کی صورت میں)

مرقس چوروں کے ساتھ صلیب دئے جانے کو یسیاہ53:12 کی پیشگوئی پورا ہونا بیان کرتا ہے مگر یہ الفاظ بعض قدیم مسودات میں نہیں ہیں اس لئے AV میں نہیں لکھے۔ مرقس15:28

اے باپ انہیں معاف کردے۔۔۔اور اسی طرح کے الفاظ بعض قدیم قلمی نسخہ جات میں نہیں ہیں (صلیب پر کے آخری الفاظ دیکھیں (RV

یوحنا کے مطابق واقعہ صلیب کے وقت یسوع نے اپنی والدہ کو اپنے ایک حواری کے سپرد کیا مگر متی اور مرقس کے مطابق حواری اور میں وہاں موجود ہی نہ تھے۔

متی کے مطابق یسوع کی گرفتاری کے وقت سب حواری بھاگ گئے تھے (پیشگوئی کے مطابق)

لوقا اور مرقس حواریوں میں سے نہیں ہیں اور نہ ہی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے یسوع کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں

مرقس11:13 بے موسم انجیر کے درخت پر لعنت کرتا۔

متی27:8 اور متی28:15 کے فقرات "آج کے دن تک" سے پتہ چلتا ہے کہ متی کی انجیل واقعات کے بہت دیر بعد لکھی گئی۔

مرقس33-4:30 لوقا19-13:18 میں خدا کی بادشاہی متی میں32-13:31 آسمان کی بادشاہی۔۔۔۔سے آنا خدا کی طرف سے آنا۔

زکریا کا بیٹا برخیاہ جو خدا کے گھر کے صحن میں قتل ہوُا

2تواریخ21-24:20 میں زکریا کے جس بیٹے کا ذکر ہے اسکا نام Jehoiada ہے جس کا قتل Temple کے صحن میں ہوُا تھا مگر

کے مطابق 68 ہر کیاہ بن زکریا کا قتل ہوُا تھا اور۔۔۔کے صحن میں ہوُا تھا جس سے پتہ چلتا ہے کہ متی کی انجیل 68 کے بعد لکھی گئی ہے۔(تاریخی غلطی ہے)

یوحنا کی انجیل میں مسیح کی آمد ثانی سے مراد مسیح کا ذاتی طور پر آنا نہیں تھا بلکہ روح القدس کا ایمان داروں کے دلوں پر نزول تھا۔یوحنا 14:16-18

مسیح کی پیدائش سے پہلے موجودگی کا ذکر صرف یوحنا میں ہے باقی اناجیل میں ذکر نہیں ہے۔اسی طرح اکلوتے بیٹے کا تصور بھی صرف یوحنا میں ملتا ہے۔

یوحنا کے مطابق یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع کو جانتا تھا کہ مسیح ہے مگر متی کے مطابق نہیں جانتا تھا۔یوحنا 1:29, 11:2، متی

یوحنا کے مطابق پانی کو شراب میں بدلنے کا معجزہ سب حواریوں کے سامنے اور سب سے پہلا معجزہ تھا مگر مرقس 8:12 کے مطابق یسوع نے معجزہ دکھانے سے انکار کیا۔

یوحنا نے لعزر کا مرنے کے چار دن بعد زندہ کرنا بیان کیا ہے کیونکہ یہودیوں کے مطابق چار دن کے بعد روح جسم سے جدا ہوتی ہے۔یوحنا 11:45-48

گرفتاری کے وقت تمام رومن سپاہی بیہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔یوحنا 18:6

یہودا نے یسوع کی گرفتاری کے لئے بوسہ نہیں دیا بلکہ یسوع نے خود اپنی نشاندہی کی تھی۔یوحنا---

مریم مگدلین کو جی اٹھنے کے بعد چھونے کی اجازت نہ دی۔یوحنا مگر متی کے مطابق مریم نے پاؤں چھوئے۔متی 28:9

یوحنا کے مطابق روحالقدس حواریوں کو دی(20:22)

یہ تمام امور یسوع کا رتبہ بڑھانے کے لئے ہیں مگر جن امور سے رتبہ میں کمی کا اشارہ ملتا ہے ان کے ذکر یوحنا نے نہیں کیا مثلاً یوحنا سے بپتسمہ لینا، شیطان سے آزمایا جانا، گرفتاری سے پہلے دعا کرنا، صلیب پر چلانا

متفرق حوالے

تمہارے باپ دادا نے من کھایا اور مر گئے۔یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس سے کھائے اور نہ مرے میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری۔اگر کوئی اس روٹی سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا۔یوحنا 6:49-51

جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتااور زندہ کرتا ہے اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔
باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتابلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے۔یوحنا 5:19-23
میری بھیڑیں۔۔۔۔میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہونگے۔یوحنا 10:27-28
زمین وآسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔متی 28:18
جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے۔عبرانیوں 8:13
اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لئے پھر نیا بنانا ناممکن ہے اس لئے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے علانیہ ذلیل کرتے ہیں۔عبرانیوں 6:6-7

داؤد کی آمد ثانی

داؤد کو چوپان مقرر کرونگا۔حزقیل 34:23-24
میرا بندہ داؤد ہمیشہ کے لئے ان کا بادشاہ ہو گا۔حزقیل 37:24-25،ہوسیع 3:5
داؤد کو برپا کرونگا۔یرمیاہ 30:9
مرنا صرف ایک بار اس کے بعد عدالت۔عبرانیوں 9:27

آدم کو خطا سے معافی دی۔حکمت 10:1
میں اپنی پہاڑی کے ارد گرد کو باعث برکت بنادوں گا۔حزقیل 34:26
جو روح نکل گئی اسے واپس نہیں لائے گا اور قبض کی ہوئی جان واپس نہ بلائے گا۔حکمت 16:14-15
بنی اسرائیل کے بھائی
ادومی استثناء 23:7،اسماعیل 16:12-13،لوط،پیدائش 13:8 بنی عیسو۔استثناء 2:4,8
اسرائیل سے مراد پاک دل لوگ۔زبور 73:1,2

لعنت

"ملعون" جسکادل خداوند سے برگشتہ ہو۔یرمیاہ 17:5

سانپ (شیطان) ملعون ہے۔پیدائش 3:14

خداوند پر لعنت کرنے والا ملعون، گنتی 24:9

بت ملعون ہیں۔استثناء7:26

ملعون سے نفرت رکھنا ضروری ہے۔استثناء 7:26

جسے پھانسی ملی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے۔استثناء 21:23

یہودی ملعون ہوئے۔ملاکی 3:9 (خدا کی نافرمانی پر)

اعتراضات

باپ بیٹا اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دینے پر عمل نہیں کیا

تمام اقوام میں منادی کرنے اور باپ بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینے کی تعلیم۔متی 28:19

مگر عمل نہیں کیا گیا۔اعمال 19:5 ,8:16,10:48 ,2:38،رومیوں 6:3،گلائیوں 3:27،1کرنتھیوں 1:12, 6:11

حواریوں کی فہرست میں فرق لوقا کے مطابق یہودا نامی دو حواری متی کے مطابق یہودا نامی ایک شخص تھیوڈاس متی میں زائید ہے اور مرقس کی دونوں سے مختلف ہے۔مرقس 3:16-19

12 حواریوں کی تعداد بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے مطابق ہے اور 70 حواریوں کی تعداد 70 اقوام کے مطابق لوقا---:10 مگر

قسم کھانا

فرشتہ نے خدا کی قسم کھالی۔مکاشفہ 10:6

آدمی تو اپنے سے بڑے کی قسم کھایا کرتے ہیں اور انکے ہر قضیہ کا آخری ثبوت قسم سے ہوتا۔ عبرانیوں 6:16

میں تمہیں خداوند کی قسم دیتا ہوں۔ 1 تھسلنیکیون 5:27

خدا کی سچائی کی قسم۔ 2 کرنتھیوں 1:18

مسیح کی صداقت کی قسم۔ 2 کرنتھیوں 11:10

مجھے اس فخر کیقسم۔ 1 کرنتھیوں 15:13

تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں۔ مرقس 5:7

(پطرس) نے قسم کھا کر پھر انکار کیا۔ متی 26:72, 74

جو آسمان کی قسم کھاتا ہے وہ خدا کے تخت اور اس پر بیٹھنے والے کی قسم کھاتا ہے۔ متی 33:22

وہ میرے نام کی قسم کھائیں۔ یرمیاہ 12:16

اگر تو سچائی۔۔۔اور صداقت سے زندہ خدا کی قسم کھائے تو۔۔۔۔۔۔ یرمیاہ 4:2

جو کوئی قسم کھائے گا خدائے برحق کے نام کی قسم کھائے گا۔ یسعیاہ 65:16

جہاں قسم کھانا منع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ خدا کی قسم کی ممانعت کا ذکر نہیں۔ متی 37-5:33، 2 کرنتھیوں 11:13

خدا کو گواہ ٹھہرانا۔۔۔۔ رومیوں 1:9, 23، گلتیون متی 26:63 خدا کی قسم اور واسطہ دینا

معجزات انبیاء

بائیبل میں بیان کردہ معجزات

الیشع کا مردہ زندہ کرنا۔ 2 سلاطین 4:35, 8:5

ایلیا کا مردہ زندہ کرنا۔ 1 سلاطین 17:22, 3:20

الیشع کی ہڈیوں سے مردہ زندہ ہونا۔ 2 سلاطین 13:21

۔۔۔۔ نام عورت کا زندہ ہونا۔ اعمال 42-9:40

پولوس کا مردہ زندہ کرنا۔ اعمال 13-19:11

حزقیل کا ہزاروں مردے زندہ کرنا۔ حزقیل 13-37:1

بیماروں کو شفاء دینا

الیشع کا کوڑھی۔2سلاطین 5:14

پطرس کا مفلوج کو۔اعمال 3:1-8, 9:33-34

پولوس کا بیماروں کو۔اعمال 19:11-13

حواریوں کا مردے زندہ کرنا، شفاء دینا، کوڑھیوں کو پاک کرنا۔متی 10:8-9

عورتوں نے اپنے مردوں کو زندہ پایا۔عبرانیوں11:35

مردوں سے مراد روحانی مردے۔یوحنا 20:31،1کرنتھیوں15:31-51،افسیون2:1, 2:5فلپیون3:11

زندگی سے مراد یسوع پر ایمان۔یوحنا17:3

مردوں کو مردے دفن کرنے دو۔متی8:22

روحانی مردے

رومیوں8:10, 6:11گلتیون 2:13،یہودا1:12،زبور119:93 .119:50 ,119:25،رومیوں8:13

گلتیون2:19-21

خداوند کا خوف زندگی بخش ہے۔امثال19:23

عورتوں نے مردوں کو زندہ پایا۔عبرانیوں 11:35

موت اور زندگی زبان کا قابو میں ہے۔امثال18:21

خدا نے ابدی حیات کا حکم کوہ صیہون پر فرمایا۔زبور 133:3

مردوں کو زندہ کرنا از روئے قرآن

روحانی مردے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی مردے زندہ کرنا۔انفال8:25

خدا کے سوا کوئی مردے زندہ نہیں کر سکتا۔دخان44:9

گناہگار کو گمراہی سے پھراناتووہ اپنے آپ کو موت سے بچائے گا۔شوریٰ42:10،یعقوب 5:20

بیماریاں ختم کرنے سے مراد گناہ ختم کرنا۔ متی 8:17

حنوک زندہ آسمان پر اٹھایا گیااور مرا نہیں عبرانیوں 11:5

بائبل کے مطابق مردہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے

مردے اس دنیا میں واپس نہیں آسکتے

قرآن الانبیاء 21:96 ،المؤمنون 23:100-101

بائبل یسعیاہ 26:13،ایوب 10:21 ,14:12 ,12:14،واعظ 9:5-6

اگر مسیح نے مردے زندہ کئے ہیں تو پھر ہر ایماندار کر سکتا۔یوحنا 14:12-13

موت صرف ایک دفعہ ہی ہے۔ عبرانیوں 9:27

مرنے کے بعد جینے والوں میں سب سے پہلا مسیح تھا۔1کرنتھیوں 15:23

ایمان دار پر دوسری موت نہیں ہے۔ مکاشفہ 2:11, 20:6

کفارہ

ہر کوئی اپنا گناہ اٹھائے گا۔حزقیل 18:5-20

گناہ کی معافی دعا سے۔استثناء 14:19-20۔ 2تواریخ 6:25

خدا کے رحم سے معافی۔ متی 9:13, 12:7

دعا سے معافی گنتی 14:19-20 ،یعقوب 5:15،استثناء 9:8-20،یوحنا 5:16،2تواریخ 7:14, 6:27, 6:25,6:30

دوسروں کے گناہ معاف کرنے سے 11:4

ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا اختیار۔ متی 9:6،مرقس 2:10 لوقا 5:24

گناہوں کے اقرار اور توبہ سے۔زبور 32:5،یسعیاہ 55:6-7،یرمیاہ 3:12-15،حزقیل 18:27-30،امثال 28:13، اعمال 8:22

اولاد ہونے سے نجات۔ پیدائش--:3، 1 Tim 2:15

خدا کی مرضی ہے جس کو چاہے بخش دے۔ رومیوں 18-9:15،زبور 78:38، خروج 33:19

جس نے گناہ کیا اسی کو سزا ملے گی۔ خروج 32:33،حزقیل20-14:16 ,14:4،استثناء 24:16،1سلاطین 14:6

توبہ سے گناہوں کی معافی۔ لوقا17:4، متی6:15 ,23-19:21،مرقس 11:26

انصاف اور سچائی کے طالب کے گناہ معاف۔ یرمیاہ5:1،امثال16:6

نیکیوں سے بدیوں کا کفارہ۔ یسعیاہ18-1:15،ایوب 14-11:13

شریر صادق کا فدیہ ہو گا۔ امثال21:18۔ گنتی13-25:7

اسی سے وہ مسیح کو صلیب دینا چاہتے تھے۔ استثناء 18:20،یوحنا 9:24 ,19:7 ,11:60

تتمہ

Old Testamentکے مختلفtextsکا فرق

The age of the Partriach according to MT and LXX

MT	LXX

F. Son	Remaining Years	F. Son	Remaining Years
Shem 100	500	100	500
Arpaschat 35	403	135	430 (400)
Cainan ---	---	130	330
Shelah 30	403	130	330
Eber 34	430	134	370
Peleg 30	209	130	209
Reu 32	207	132	207
Serag 30	200	130	200
Nahor 29	119	79 (179)	129 (125)
Terah 70	135	70	---

Abraham 100	75	100	75

ST until flood follows MT and then LXX although with several varieties

LXX	MT
Gen 11:32 And all the days of Tharrha in the land of Charrhan were two hundred and five years, and Tharrha died in Charrhan.	Gen 11:32 And the days of Terah were two hundred and five years: and Terah died in Haran.
Exodus 6:20 ”And Ambram took to wife Jochabed the daughter of his father’s brother, and she bore to him both Aaron and Moses, and Mariam their sister: and the years of the life of Ambram were a hundred and thirty-two years.“ Age of Amaron 132 years (Codex Alex-136 years)	Exodus 6:20 ”And Amram took him Jochebed his father's sister to wife; and she bare him Aaron and Moses: and the years of the life of Amram were an hundred and thirty and seven years.“
Exodus 40:2 On the first day of the first month, at the new moon, thou shalt set up the tabernacle of witness.	Exodus 40:2 ”On the first day of the first month shalt thou set up the tabernacle of the tent of the congregation.“

Exodus 40:17 And it came to pass in the first month, in the second year after their going forth out of Egypt, at the new moon, that the tabernacle was set up.	Exodus 40:17 „And it came to pass in the first month in the second year, on the first day of the month, that the tabernacle was reared up."
Numbers 13:20 And what the land is on which they dwell, whether it is good or bad; and what the cities are wherein these dwell, whether they dwell in walled cities or unwalled.	Numbers 13:20 And what the land is, whether it be fat or lean, whether there be wood therein, or not. And be ye of good courage, and bring of the fruit of the land. Now the time was the time of the firstripe grapes.

Josh 3:15

MT here gives the impression that the crossing of the Jordan took place at the time of harvest. If this means the wheat harvest as normally is the case, then there seems to be a contradiction in the statement in Josh 4:19 "And as they that bare the ark were come unto Jordan, and the feet of the priests that bare the ark were dipped in the brim of the water, (for Jordan overfloweth all his banks all the time of harvest,"

LXX The Jordan overflowed all its banks, as on the days of wheat harvest;but in fact in the dry month of the wheat harvest the Jordan did not overflow its bank.

LXX	MT
Gen 2:2a And God finished on the sixth day his works which he made, and he ceased on the seventh day from all his works which he made.	Gen 2:2a And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.
Gen 8:5 And in the tenth month, on the first day of the month, the heads of the mountains were seen.	Gen 8:5 And the waters decreased continually until the tenth month: in the tenth month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen.

Genesis 7:11 In the six hundredth year of the life of Noe, in the second month, on the twenty-seventh day of the month, on this day all the fountains of the abyss were broken up, and the flood-gates of heaven were opened. Genesis 8:14 And in the second month the earth was dried, on the twenty-seventh day of the month.	Genesis 7:11 In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, the seventeenth day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened. Genesis 8:14 And in the second month, on the seven and twentieth day of the month, was the earth dried.
Genesis 10:21 And to Sem himself also were children born, the father of all the sons of Heber, the brother of Japheth the elder. (Please check, does not seem contradictory)	Genesis 10:21 Unto Shem also, the father of all the children of Eber, the brother of Japheth the elder, even to him were children born.

LXXاورMTمیں مزید اختلافات

Some more obvious differences are listed below:

Exodus

Chapters 35 to 40 differ considerably from the MT. Some details in MT are absent, others abridged and others transposed in LXX.

Deuteronomy

At the end of the song of Moses (32:43). The LXX is longer by six verses than the MT.

Joshua

Two different descriptions of the territory of Benjamin and Judah and Simon (15:21-62 and 18:22-19:45). The discussion of the institution of the cities of refuge is not present in LXX.

There is also variance in the ending of Joshua and beginning of Judges where the LXX contains 15 extra lines.

Judge

There are element not paralleled in MT.

1-2 Samuel

Text of LXX is longer than MT in general. There are also elements in the MT that are not in the LXX. One of the more notable details is the portrayal of David in relation to the Goliath story (1 Samuel 17-18). The LXX is shorter by 50 verses than MT

1-2 Kings

The LXX portrayal of Solomon, Jerobam and Ahab differs considerably from MT often giving two accounts of narratives attested anly once in MT. Some of these seem to point to the existence of two textual traditions concerning the schism between Israel and Judah.

1-2 Chronicles

There are differences in the listing of genealogies of the descendants of Ham. LXX in general shortening the list found in MT . LXX of 2 Chronicles 35 contains readings which are absent in the MT.

Job

The Greek text is shorter by approximately one-sixth than MT. There is a long final addition and alternate rendering of some passages.

Esther

Of the 270 verses in the LX text, 107 find no parallel in the MT.

Jeremiah

The LXX text is shorter by 2700 words than the MT. It now seems absurd that the shortest LXXversion is based upon a different Hebrew text. The 'oracles' against the nations are situated in another place and in different order than the MT. There are significant differences in the contents of chapters 10 and 23.

Ezekiel

The LXX version differs from the MT in many ways. The significant difference is 36: 23-38. The LXX text seems to have been based on a Hebrew original much shorter than that represented in the MT.

Daniel

LXX differs from MT in a variety ways. In chapter 4 for example, the LXX text is clearly longer than the MT.In addition to these differences,

there appears the addition Bel and Dragon. The prayer of Azariah and the three young men and the story of Susanna.

Reference: MT is the (online) King James Version: (http://quod.lib.umich.edu/k/kjv/browse.html)
Whereas LXX is also an online version: (http://www.ecmarsh.com/lxx/)

حضرت مسیح علیہ السلام کی صلیبی موت سے نجات

صلیب سے نجات کی پیشگوئیاں

زبور 22:16-12 دعا کرنا۔ دشمنوں سے چھڑانا۔ نجات کے بعد تبلیغ

دعا کی قبولیت اور نجات۔ زبور 94:17, 116:1-9, 18:17-20, 18:3, 37:32-33, 41:1-3,
91:14-16, 30:1-3, 41:11, 118:17-18, 21:1-6, 37:40, 18:20-21, 18:4-7,
27:13, 25:20, 81:7,143:3-9 یسعیاہ 53:11 قمران

انجیل کی پیشگوئی۔ متی 12:39-40 یونس نبی کا نشان۔ یونا(یوحنا) 1:17 لوقا 11:29-30

صلیب پر مرنے والا لعنتی۔ استثناء 21:23۔ گلیتون 3:13

پیلاطوس کی بیوی کا خواب۔ متی 27:19

پیلاطوس بچانا چاہتا تھا۔ لوقا 23:13-23۔ یوحنا 18:39۔ مرقس 15:9۔ یوحنا

خدائی انتظامات

اندھیری (آندھی مراد ہے؟) متی 27:45 مرقس 15:33 لوقا 23:44

ہڈیاں نہ توڑنا یوحنا 19:31

دونوں چوروں کا نہ مرنا اور ان کی ہڈیاں توڑنا۔ یوحنا 19:32

خون اور پانی بہہ نکلنا۔ یوحنا 19:34

مردوں کے زندہ ہونے کا کشفی نظارہ اور اسکی تعبیر۔ متی 28:52

قید سے دوسری بھیڑوں کو جمع کرنا۔ یوحنا 10:16

پیلاطوس کی حیرانگی۔ مرقس 15:42-44

دعا کرنا۔ متی 26:38-40، مرقس 14:35-36، لوقا 22:41-43

دعا سنی گئی اور مسیح بچائے گئے۔ عبرانیوں۔۔۔

زخم دکھانا اور کھانا۔ لوقا 24:39-43، یوحنا 20:19-21

صلیب پر مرنے کی پیشگوئیوں میں اختلاف

تیسرے دن جی اٹھے گا۔ متی 17:23 تین دن بعد مرقس 9:31-31، متی 28:63

غمگیں ہوئے متی، 17:23 سمجھے نہ تھے لوقا 9:45 ، مرقس 9:31-32

یوحنا 20:9 پیشگوئی نہ جانتے تھے

مسیح کے لئے صلیب پر مرنے کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا

سخت تکلیف کو بھی موت سے تشبیح دی گئی ہے۔ زبور 71:20 1 کرنتھیوں 15:30

مکاشفہ کا اقرار گویا ذبح کیا ہوا برہ دیکھا۔ مکاشفہ 5:6

دشمن کا منصوبہ خدا کا ہنسنا۔ زبور 2:3-4

مزید بھیڑوں کی تلاش کی پیشگوئی۔یوحنا 10:16

صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کی طرف۔متی 15:21-28

بچائے جانے کی پیشگوئی

عالم اسفل کے قریب، مردوں کے درمیان، غار ہیں مکروہ قریب الموت رفیق دور۔زبور 88:4-19

زندہ کو مردہ سمجھنے کی مثال۔اعمال 14:19

خداوند محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرتا ہے اور شریروں کو ہلاک کرتا ہے۔زبور 145:18-20

وہ اسنوشتہ کو نہ جانتے تھے میکا کے مطابق اسکا جی اٹھنا ضرور تھا یوحنا 20:9

1تواریخ 14:12 داؤد نے بت جلادئے

2سیموئیل 5:21۔اٹھا کر لے گئے۔

2سیموئیل 24:16۔1تواریخ 21:15-16

اختلافات S.P., M.T., LXX

Exodus 12:40 میں اسرائیلیوں کا مصر میں قیام 430 سال لکھا ہے اور SP میں بھی 430 سال ہی لکھا ہے مگر LXX میں مصر کے علاوہ کنان کے قیام کو بھی اس عرصہ میں شامل کیا گیا ہے۔

یرمیاہ کی کتاب کے MT Text اور LXX میں مختلف ہے اور LXX میں MT کی نسبت 2700 الفاظ کم ہیں۔

LXXاورMTمیں اختلاف 1 سیموئیل LXX14:41 میں زائد ہے

2سیموئیل33-11:22 LXX میں کافی زائد ہے

(یرمیاہ) یہوواہ نام کی گنتی میں فرق

دفعہ،

دفعہ میں کل دفعہ

اور میں دفعہ

یہوقیم بن یاسیاہ یہوداکے بادشاہ کے وقت میں یرمیاہ پر خدا کا کلام نازل ہوا مگر یہ تاریخی لحاظ سے غلط ہے کیونکہ Hananih صدقیاہ کے وقت تھا

بعض درمیانی عرصہ کے قلمی نسخہ جات میں یہوقیم کی بجائے صدقیاہ ہی لکھا ہے مگر یہ بعد میں۔۔۔۔ کی گئی ہے۔ یرمیاہ 27:1

یرمیاہ LXX 28:4 میں مختلف اور کم ہے

یرمیاہ LXX 11:7-8 میں نہیں ہیں۔

بائبل کے مطابق مردہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے

لڑکی مرنے کو ہے۔ متی 9:18-25

قبریں کھل گئیں۔ متی 28:52-53

مردے زندہ نہ ہونگے۔یسعیاہ 26:13۔ایوب 10:21 .14:12 ,12:14،واعظ 9:5-6

مسیح نے کہا کہ میں پھر دنیا میں نہیں ہونگا۔ یوحنا 17:11

جس طرح باپ زندہ کرتا ہے اسی طرح بیٹا۔ یوحنا5:21،یسعیاہ 26:13،قرآن کریم الانبیاء 21:96

اگر مسیح نے مردے زندہ کئے ہیں تو آج بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ یوحنا 11:25-26

وہ ابد تک نہ مرے گا۔ مجھ سے بھی بڑے کام کر سکتا ہے۔ یوحنا 14:12، متی 17:12 ,21:21-22،لوقا 7:5-6

زمین میں نکلا اور زمین میں لوٹ نہ جائے پیدائش 3:19

خاک پھر خاک میں لوٹ جائیگی۔

مردوں کو مردے دفن کرنے دے۔ متی 8:22،لوقا 9:60

دوسری موت (جہنم کی سزا)۔ مکاشفہ 21:8, 20:14

پہلی قیامت میں شریک لوگوں پر دوسری موت کا اختیار نہیں۔ مکاشفہ 2:11, 20:6

ایک بار مرنا اس کے بعد **عدالت** (؟)۔ عبرانیوں 9:27

1۔تواریخ18:12۔۔۔کے سپہ سالار۔۔۔نے ادومیوں کو شکست دی

2۔ سیموئیل8:13داؤد نے آرامیوں کو شکست دی

قدیم ترین مسودہ قلمی نسخہ عبرانی Textانبیاء کا ہے جو Cairo Copy کے نام سے موسوم ہے۔ یہ 895 کا ہے

930 Aleppo Codex سے تعلق رکھتا ہے

Babylonian Codex of Prophets 916 کا ہے

قیامت کا ذکر۔ مکاشفہ 20:6

حنوک اٹھالیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے۔ عبرانیوں 11:5

MT	LXX
طوفان کے دو سال بعد پیدا ہوُا	ارفکشد طوفان کے بعد دوسرے سال پیدا ہوُا۔ پیدائش 11:10
ارفکشد 35 برس کا تھا جب اسے شالخ پیدا ہوُا 11:12	ارفکشد 135 سال کا تھا جب قینان پیدا ہوُا 11:12
شالح کی پیدائش کے بعد ارفکشد 403 برس رہا 11:13	قینان کی پیدائش کے بعد ارفکشد 430-400 سال زندہ رہا 11:13
	قینان 130 سال کا تھا جب شالح پیدا ہوُا 11:13
	قینان شالح کی پیدائش کے بعد سال 330 زندہ 11:15
شالح 30 برس کا تھا جب عبر پیدا ہوُا 11:14	شالح 130 سال کا تھا جب عبر پیدا ہوُا 11:14
شالح 430 برس عبر کی پیدائش کے بعد زندہ رہا 11:15	شالح 330 برس عبر کی پیدائش کے بعد زندہ رہا 11:15
عبر 34-24 سال کا تھا جب فلج ہوُا 11:16	عبر 134 سال کا تھا جب فلج ہوُا 11:16
فلج کی پیدائش کے بعد عبر 430 برس بعد پیدا ہوُا 11:17	فلج کی پیدائش کے بعد عبر 370-270 سال زندہ رہا 11:17
فلج 30 سال کا تھا جب رعو پیدا ہوُا 11:18	فلج 130 سال کا تھا جب رعو پیدا ہوُا 11:18
رعو 32 برس کا تھا جب سروج پیدا ہوُا 11:20	رعو 132 برس کا تھا جب سروج پیدا ہوُا 11:20
سروج 30 برس کا تھا جب ناحور پیدا ہوُا 11:22	سروج 130 برس کا تھا جب ناحور پیدا ہوُا 11:22
ناحور 29 برس کا تھا جب تارح پیدا ہوُا 11:24	ناحور 79-179 برس کا تھا جب تارح پیدا ہوُا 11:24

ناحور تارح کی پیدائش کے بعد 129-125 پیدا ہوُا 11:25	ناحور تارح کی پیدائش کے 119 برس بعد پیدا ہوُا 11:25
خدا کے خلاف برے الفاظ کہے 1 سیموئیل 3:3	اپنے آپ کے متعلق خدا پر برکت بھیج اور مر جا
خدا پر لعنت کر و رمر جا۔ایوب 9-2:5 ,1:5,11	

واقعات دہرائے گئے

2 سیموئیل 22،زبور 18، 253:14 سلاطین 20-18:13،یسعیاہ 36:1، 38:8

پیدائش 46:20 جہاں یعقوب کے ساتھ مصر جانے والوں کے نام ہیں وہاں MT کے مطابق 70 افراد ہیں مگر LXX اور قمران کے مطابق 75 افراد ہیں اور اعمال کے مطابق بھی افراد ہیں۔

SPEXD 20:17 میں گریزم زائد ہے۔استثناء 30-11:29، 7-27:2 میں Ebal کی بجائے گریزم ہے

EXD 14:20 میں اسرئیلیوں کی شکایت درج ہے۔

میں مصر کے دوران کسی ایسی شکایت کا ذکر نہیں ہے۔

Samariten اضافہ جات جوبلی کی کتاب میں بھی ہیں مثلاً پیدائش 11:8 جوبلی 10:24 LXX SP میں Tower زائد ہے اور لڑا بھی پیدائش 21:13، جوبلی 17:6

SP,LXX 1 تواریخ 4:22 سے متفق ہیں COZEBA مگر MT میں CHEZIB ہے۔

ایک وقت میں کم از کم دو مختلف Text پرانا عہد نامہ کے بیک وقت موجود تھے۔ایک Babylonian Text اور ایک Palestinian Text اور مصر اسکندریہ میں Palestinian Text کی کاپی بھجوائی گئی تھی جسکا یونانی زبان میں ترجمہ ہوُا تھا جو LXX کے نام سے مصروف ہے۔

تتمہ

Old Testament کے مختلف texts کا فرق

The age of the Partriach according to MT and LXX

MT		LXX	
F. Son	Remaining Years	F. Son	Remaining Years
Shem 100	500	100	500
Arpaschat 35	403	135	430 (400)
Cainan ---	---	130	330
Shelah 30	403	130	330
Eber 34	430	134	370
Peleg 30	209	130	209
Reu 32	207	132	207
Serag 30	200	130	200
Nahor 29	119	79 (179)	129 (125)

Terah 70	135	70	---
Abraham 100	75	100	75